

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_232667

UNIVERSAL
LIBRARY

وَلَقَدْ كَسَبْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
بمطبع دار الفکر بیروت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَالَّذِي يُضَوِّبُ الْمَاءَ
فَتَنبُتُ بِشَيْءٍ مِنْهُ
حَبَابٌ كَثِيرٌ
وَالَّذِي يُسَوِّدُ
الْبَصِيرَ
وَالَّذِي يُضَوِّبُ
الْمَاءَ فَيُتَخَذَ مِنْهُ
الْحَبُّ وَالذُّرَّةُ الْأُخْطَاءُ
وَالَّذِي يُضَوِّبُ
الْمَاءَ فَيُتَخَذَ مِنْهُ
الْحَبُّ وَالذُّرَّةُ الْأُخْطَاءُ

بمطبع دار الفکر بیروت

فَالْمُطَبَّعُ الْفَاوِقِيُّ وَالْمُطَبَّعُ

تفسیر القرآن

۲۹۷۵۱۰
م
ت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سبحان اللہ وجمہدہ کیا بڑی شان ہے اوس شہنشاہ بی پروا کی کہ کلام صفت خاص کو اپنی بندہ یا مختصاں پر نازل کیا اور شاہد معانی قدیمہ کو بیچ لباس الفاظ کے جلوہ گرفتار مایا عقل کل بیچ ادراک جلال ذات اُسکے کے حیران ہے اور انسان کامل اُسکی شاکر محال صفات میں قائل لا احوے بیان ہے مثنوی ہے ابھی تو شہنشاہ جہان ہے :-

تائیں تیری نخر سرداران ہے	اویم خاک سی عرش برین تک	تیرا ہی ذکر و درہر زبان ہے
فرشتے ساری ہیں بتیج گویان	شائیر صد افس و جان ہے	مگر میں مجز و نادانی کی قائل
اور لا احوے بیان سبکایان ہے	نہیں طاقت ہی اس شوریدہ میں	شائیر ہی کہی ایسا کہاں ہے
ہی دعویٰ آخری احمدمد	کہ یہ تو مبد ر اتم القرآن ہے	نہیں بہتر ہی اس لفظ کوئی
کہ اُسکو میں کہوں یہ پرعیان ہے	اور کیا مبارک ذات ہی اوس رسول عالیجاہ کی کہ وسطہ صلوات	نعمت عظمیٰ کے ہیں اور رسیدہ حصول شفاعت متمنی کی
اور صفت انجی رؤف الرحیم	پہنشنوی رحمتہ ہے	محمد سرد و نہر دو جہان ہے
محمد دلبر کون و مکان ہے	زمین و آسمان سب ہیں طفیلے	وہی مقصود اصل سبکیان ہے
ظہور انکا اگرچہ بعد سبکے	ہوا لیکن وہ اصل دو جہان ہے	کہنا ہی سورہ نون و نظم میں

کہ تیرا وصف تو خلق کلان ہے، بین اوصاف اونکی حد لاتناہی یہ شدہ وصفی اونکی بیان ہے،
 صلوة اللہ علی ختم الرسالۃ محمد نام جبکا جان ستان ہے اور جوہن آل اور صحاب انکی
 سلام اور پڑھی میرا ایک بان ہے، اما بعد کہتا ہی سلیم الفطرت عدیم الخیرت وزیر علی
 ابن منور علی مشہور بہ محمد سلیم عالمہا اللہ لطفہ المعجز کہ حیوت سی منعم حقیقی اور محسن تختی تے
 جلت الکرہ و عمتہا کون فی اس احقر محض اور افرجرت کو نعمت علم اور صنعت
 حفظ سی سرفراز فرمایا چاہتا تھا کہ اسکے شکر یہ میں کوئی تفسیر عربی اور ترجمہ عجیب لکھ سکے مگر
 چونکہ علماء سلف اور فضلاء خلف اس سعادت عظمیٰ کو بوجہ اتم حرز کر چکے تھے عزم مصمم
 نہ کر سکتا تھا مگر قلب مطمئن سی ہمیشہ فتویٰ چاہتا تھا بعد اصرار بسیار کی نفس ملہد نی یون
 صلاح دی کہ تمامی لغات قرآن مجید اور فرقان حمید کی استنباط کر کے بطور فرہنگ کے
 مہیوب اور مفصل لکھ کر اس جزو زمان میں کسی فی سطر ح کی نہیں لکھی ہے الا ماشاء اللہ
 راقم سطور نے اسکو الہام غیبی اور القاء لاریبی سمجھ کر فوراً اعنان شہد زیر قلم چتا دیا
 اور میدان کاغذ میں جولان دیا آخر بعد ریاضت جلیدہ کے بیچ مدت قلیلہ کے جس وجہ
 تمام کیا اور اسکا نام تیسیر القرآن و التہلیل الفرقان رکھا اور سبب اردو زبان
 لکھنے کا یہ ہے کہ اس زبان میں سکن ہند کو نفع عام ہے اور عربی خاص اور فارسی
 خاص سوای اسکی مقصود اس تصنیف سی اجر اخروی ہے نہ فخر دنیوی اسبواسطے عبادت
 آرائی اور دقت پرائی کہ فخر اظہار علم اور فضل سے ہے اس کتاب میں یک قلم ترک کے
 اور فرہنگ دوسری اہل علموں کی بیچ زبان فارسی کے متضمن تحقیقات لغات اور
 تدقیقات صرف و نحو اور بیان اور بدیع کی ہے لکھی تاکہ ہر شخص اپنی استعداد کے
 موافق فائدہ لیوے اور مصنف کو دعای خیر سے یاد کرے اب امید ناظرین اس سلسلہ
 اور باصرین اس مجالہ سے یہ ہے کہ اگر کوئی لغت بسبب خیر گئے نظر یا اقتضای
 بشریت کے یہ لکھا ہو تو اسکو اس کے باب میں لکھوین اور زبان طعن و تشنیع کی

اس بی بصاحت پر نگہولین کہ انسان کی ذات میں خطا اور نسیان ہی اور انتخاب لغات کا
نکالنا موتیوں کا ہے دریا سی زخاری صاحب کو کب ڈری سی باوجود ایسی سی کی بہت سے
الفاظ رہ گئی سورہ ظہر میں لفظ تینیا رکھیا اور سورہ حجرات میں فائت چوٹ گیا علیٰ ہذا
القیاس باوجودیکہ یہ دو لفظ تام قرآن میں ایک ہی جگہ وارد ہیں یہ مقتضای شریعت
ہے جگہ طعن و طنز کی نہیں بلکہ طعن جاہل ہے اور حقیقت بشری سی غافل اور
سامعی اسکی ترویج میں رہیں الدال علی الخیر کفایہ مقدمہ خدمتین ناظرین
اس کتاب کی التماس یہ ہے کہ پیش از شروع اس کتاب کی چند چیزیں ضرور
ملاحظہ فرمائیں اول یہ کہ ترتیب اس کتاب عجیب کی موافق حروف ابجد کے
اور پراہنہائیس باب کے اور ہر باب اور پراہنہائیس فصل کے باعتبار حروف ثانی کے
مرتب ہی نکالنا جس لغت قرآنی کا منظور ہو پہلا اور دوسرا حرف اوس لفظ کا دیگر
اوسکے باب اور فصل سی نکالین مثلاً لفظ اللہ جل شانہ کو باب الالف مع اللام میں
دیکھیں بفضلہ تعالیٰ فوراً تقدم اذاتہ امیگا اور بعضہ باب خالی لکھ دیے گئے سبب
اوسکا یہ ہے کہ اوس باب و فصل کی لغت قرآن مجید میں نہیں ہے دوسرے
یہ کہ پہلے حرف میں اعتبار کتابت کا ہے اور دوسرے میں لحاظ قرأت کا مثلاً لفظ
(انس) کا کہ اوسکا دوسرا الف لکھنے میں نہیں آتا ہے مگر پڑھنے میں آتا ہی ہے
اوسکو باب الالف مع الالف میں مندرج کیا نہ باب الالف مع النون میں جیسا دوسرے
کتابوں میں لغت کی ہے تیسرے یہ کہ اس کتاب میں ضبط تمامی لغات صحیحہ مختلفہ
والمعنی کا ہے اور جبکی بیچ یا آخر میں کسبب عامل یا اضافت کی تغیر یا حذف ہوا ہے تو
اوسکو بعد لانی اصل لغت صحیحہ کے مینے ذکر نہیں کیا مثلاً (یقیمون و مشیمون) ساتھ
اور یمن کے باب الیاء والمیم مع القاف میں مذکور ہے اور (یقیموا اور مقیمو) ساتھ حذف
نون اور تغیر داوٹے اگرچہ قرآن مجید میں وارد ہے مگر ذکر نہیں کیا گیا اوساطے کہ اصل لغت

اول مذکور ہو چکے متغیر کو بار دیگر لانا صرف تکرار ہی باوجودیکہ اصل معنی میں کچھ فرق نہیں ہوا
سوا اسکے کہ تغیر اور حذف بسبب عامل یا اضافت کی ہوا ہے سو دونوں کا ذکر خلاف قانون
عقل اور نقل کی ہے اور مَعْمُولٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْمُولِ کا لانا بدون عامل مجوزہ کے معنی
عقل اور نقل کے مگر صحیحہ اصل لغت صحیحہ سالم اوس باب کی قرآن میں نہ تھی تو اس جگہ لاچار ہو کر
اوس لفظ کو لکھا مینے اگر چاہے تو اس کے عامل کو اس کے باب سی دریافت کر کے معنی مربوط کرے
حیرت کو قرین گوشہ خاطر کے راہ نہ دی اور مثلاً اسم فاعل کی جمع مذکر سالم کے سینے حالت
میں وَاو اور نون کے ساتھ آتی ہیں جطرح هُمُ الظَّالِمُونَ اور حالت نصبی اور جری
میں تھی اور نون کے ساتھ آتے ہیں بیساکہ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اَنْصَارٍ ہ سبب عامل کے صرف لفظ میں تغیر آیا نہ کہ معنی میں
پس ضمیمہ مذکور کو وَاو اور نون کے ساتھ لکھا اور یا اور نون کے ساتھ مندرج کیا
اور باقی صیغوں کو اسی پر قیاس کر لینا چوتھے یہ کہ ہر لغت کے بعد اس کے معنی جو
مراد قرآنی ہیں ضمیمے ہوں یا مجازی لازم اردو محام فہم میں لکھا مینے اور معانی
مختلف اور ماخذ اشتقاق کا ذکر نہیں کیا کہ مناسب وضع اس کتاب کی نہ تھا ذکر ان چیزوں کا
فرہنگ فارسی میں بوجہ حسن ہے مَنْ شَاءَ فَلْيَنْظُرْ اَنْتُمْ پانچویں جہہ کہ طالب
کم استفادہ کو چاہیے کہ اول سے آخر تک اس کتاب کو ایک کسی اہل علم سے پڑھ لیں
بعد اس کے نظر تفصیلاً سے مکرر کر مطالعہ کرے اور معانی لغات کو قوت حافظہ کے
سپرد فرماوے کہ عین قرآن پڑھنے کے وقت ہر ہر لفظ کے معانی فرہنگ میں دیکھنے
سے محنت بہت بڑتی ہے یہ آخر مقدمہ ہے اب شروع کتاب کو کرتا ہوں بعونہ و قوتہ لغات

بَابُ الْاَلِفِ

(۱) کیا (ف) یہ حرف سہنہام ہے ندا کے واسطے ہی آتا ہے متحرک کو مجزہ اور ساکن کو
الف کہتی ہیں الف کسی قسم سے تفصیل اس کی کتب صرف میں اور کہیں مجزہ پر ہی اطلاق الف کا کرتی ہیں

باب الالف مع الالف

اَدَمَ نام پہلے پیغمبر کا ہے جو باپ سب آدمیوں کے ہیں علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
 اَدْر نام حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے باپ کا ہے یا حجاج کا باپ کا نام
 تاریخ تھا اور عجب چچا کو بھی اب کہتے ہیں آزر کر مضبوط کی اوسنے آمن ایمان
 لایا وہ اور مانا اوسنے اور اعتبار کیا اوسنے آمنوا ایمان لائے وہ آمننت
 ایمان لائی وہ امنتم ایمان لائے تم امننت ایمان لایا میں امننا ایمان
 لائی ہم آمن اعتبار کرو نگاہ میں امن ایمان لاتو امنوا ایمان لاؤ تم امن امن جن بانیا
 امنون جن بانیا والے امنتم جن بانیا والے اتی دیا اوسنے اتوا دیا انہوں
 نے اتین دیا انہوں نے حج شاکر اتین دیتے رہو تم اتیت دیا تو
 اتیتم دیا تم اور دنیا کیا تم اتیتموا دیا تم اتیت دیا میں اتینا دیا میں
 اتی اونگاہ میں ات اتوا اتیا اؤ تم دونوں امنوا اؤ تم اور لاؤ تم ات لاتوا
 اتوا اؤ تم اور لاؤ تم ات انیوا لا اتیتہ انیوالی اتین دیکھا اوسنی امنتم
 دیکھا تم اسفوا خفا کیا اوہوں نے اور جو بھل دلا یا اوہوں نے امر حکم کرو نگاہ
 میں امر حکم کرو تو امرون حکم کرنے والے اتتمرو اسکا اؤ تم ائمتہ امام سب
 اور سردار سب ان پانی گرم اور زمانہ اندک الان کیا اب انیہ ہسن اؤ
 گرم ہونیوالی ف اول معنی جمع ان کی ہے اور دوسرے معنی ہم فاعل کے وزن
 مشترک ہی آثار گہریاں آثار نشانیاں آیت ثانی اور آیت قرآن اتین
 دون نشانیاں آیات نشانیاں اذوا ستایا اوہوں نے اذیتموا ستایا
 تم اصل شامج اتین امانت رکھا گیا وہ اؤ منی جگہ دی اوسنی اؤوا
 جگہ دی اوہوں نے اؤینا پناہ اور جگہ دی ہم نے اؤمی پناہ لو نگاہ میں اؤوا
 پناہ لو تم اظہر محبوب سب آلف ہزاروں الف اب اکون کہا نیوالی

حج شاکر
 جس لفظ کی
 معنی کی آخر میں صرف
 جمع اور صرف ثانی لکھا
 جو یہ لکھا جو و معلالت جمع اور
 ہوشنگی
 بی

آل دست اور اولاد آبار باپ داد سے اسی عم کہاؤ گامین اخر اور اخر ان دو اور
 اخر و ن سب اور اخر بچلا یوم الاخر دن قیامت اخرین بچلے اخرتہ بچلے
 از رختہ نزدیک انوالی یعنی قیامت اقلین غائب ہونوالے اعم گنہگار ائین
 گنہگار سب اثر پسند کیا اوسنے الارا احسان اور نعمتیں اڈت جردی میںے اڈنا
 حکم کر دیا یعنی اذن رخصت دو گامین اوڈن رخصت دے تو اڈو اخر اڈا
 ہوتم اذان کان سب اسن ہمزہ ہونوالا اڈتین یعنی الی افاق دنیا اور کناری آسمانے

فصل الالف مع الباء

ابراہیم نام ہے خلیل الرحمن علیہ السلام کا اہلین نام امید اور دہو کا دینے والا
 لقب ہی عزرا یل علیہ اللعنه کا اب است باب ابون مان باب ابی انکار کیا
 اوسنی ابوا انکار کیا اوہون نے ابین انکار کیا اوہون ابد ہمیشہ ایشلے آزما یا اوسنے
 ایشلے آزما یا گیا وہ ایشلے آزما و تم امین سفید ایشلے سفید ہوئے
 ابواب دروازے انکار وقت صبح انکار کنواریاں ابراہیم نیک لوگ
 ابرص کوڑھے ابن بنا تو ابوابنا و تم ابن بیٹا ابنی دو بیٹے
 ابنا بیٹے ابنہ بیٹی ابنئے دو بیٹیاں ابغے چاہتا ہونین امتیعا تلاش
 کننی ابغی جانا اوسنی امتعوا تلاش کی اوہون نے ابغیت جانا تو نے ابغی
 چاہتا ہون میں ابغ ڈھونڈ تو ابغوا ڈھونڈ ہوتم ابغٹ اوہا یا جاؤ گامین
 ابغٹ اوہا تو ابغوا اوہا و تم ابصر دیکھا اوسنی ابصر نا دیکھا ہے ابصر دیکھا
 ابصر بویا دیکھنے والا ہے فعل تعجب ہی ابصار انہیں اہل اونٹ ابغ پہنچ گامین
 ابغوا پہنچا یا اوہون نے ابغٹ پہنچا یا میںے ابغ پہنچا دی تو ابغ پہنچا تا
 ہون میں ابغی گل جاتا تو ابطل بدل لو گامین ابرمی چکا کرتا ہون میں ابرمی چکا
 کرتا ہون میں ابرح بہرون گامین انکم گونگا ابکے روایا اوسنی ابغوا نیا کمال

اونہوں نے اَلْقَى بہت پاندار اَلْقَى باقی رکھا اوسنی اَبَق بھاگادہ اَبَجَر دنیان
اَبْرَمُوا اَبْرَا اونہوں نے اَبْرُوا خوش ہوتم اَبْرَلِق لولے اَبْرَمُوا
دُم کٹا اَبْرِل گروہ گروہ (ف) کہتے ہیں کہ چڑھیں سبزہیں جو بچ
اونکی زرد بچے اونکے کٹے کے سے اور سرد رندے کے سے اَبْلُوا اوسنی کے

فصل الالف مع التار

ات

اَلْقَى آیادہ اَتِيَا اَنِي وہ دونو اَتُوا اے وہ اور لائے وہ اَتَتْ اے وہ اَتَيْنَ
اَتَيْنَ وہ اور لائیں وہ اَتَيْتَ اَيَا تو اور لایا تو اَتَيْتَا اِنِي ہم اور لائی ہم اَتُوا لَانِي گئی
اَلْقَى ڈراوہ اَلْقَى بڑا پر سبز گار اَلْقُوا بچے وہ اور ڈرے وہ اَلْقَيْنَ ڈرین وہ سب
اَلْقَيْشَنَ ڈرین تم اَلْقُوا ڈرتو اَلْقُوا ڈرتم اور جو تم اَلْقَيْنَ ڈرتے رہو تم اَلْقَيْنَ
مضبوط کیا اوسنی اِتْحَادُ بنا نا اِتْحَذُ اَبْرَا اوسنی اِتْحَذْتُ اَبْرَا اوس عورت نے
اِتْحَذْتُ اَبْرَا تو نے اور اَبْرَا لیتا تو اِتْحَذْتُ اَبْرَا اِتْحَذْتُ اَبْرَا اِتْحَذْتُ
پکڑتا میں اِتْحَذْتُ اَبْرَا پکڑتا میں اور بناتے ہم اِتْحَذْتُ اَبْرَا ہونیں اِتْحَذْتُ اَبْرَا اِتْحَذْتُ
اِتْحَذِي بنا تو اِتْبَاعِ پیروی کرنی اِتْبِعِ تابع ہوا وہ اِتْبِعُوا اِتْبِعِي حلے وہ اِتْبِعْتُ
پیروی کی تو نے اِتْبِعْتُ پیروی کی متی اِتْبِعْتُ پیروی کی میں اِتْبِعْنَا پیروی
کی ہمیں اِتْبِعِ تابعداری کرتا ہونیں اِتْبِعِ تابع ہو تو اِتْبِعُوا تابعداری کرتے اِتْبِعِ
بچے چلا وہ اِتْبِعُوا اِتْبِعِي لائی گئے وہ اِتْمُ پورا کیا اوسنی اِتْمَمْتُ پورا کیا میں اِتْمَمْنَا
پورا کیا ہمیں اِتْمُ پورا کرونگا میں اِتْمُ پورا کرو تو اِتْمُوا پورا کرو تم اِتْمُوا بڑھونگا میں
اِتْمُ بڑھ تو اِتْمُوا بڑھو تم اِتْمُوا اِتْمُوا پورا ہوا وہ اِتْمُوا تو بڑھو رنگا میں اور معا
فرماؤں گا میں اِتْمُوا تمکیہ کرتا ہوں میں اِتْمُوا آرام دیا میں اِتْمُوا لذت دینی
گئے وہ اِتْمُوا میں دیئے گئے تم اِتْمُوا چوڑ تو اِتْرَابِ ہم سب

فصل الالف مع الثاء

اث

کر تو اذع مانگ تو اور بچار اذعوا بچارو تم اور عیال پالک لوح پھین منہ بولی بیٹھے
 اذفع دور کر تو اذعوا دور کر دو تم اذبار بیٹھین اذبار بیٹھہ پیرین اذبر بیٹھہ پیری
 اوسے اذنی بہت نزدیک اور بہت خراب اذمی بڑی بلا اذلی لگا یا اوسے اذمی
 خبر دار کیا اوسے اذمی جانتا ہوں میں اذل راہ بتاؤں گا میں اذارک دریافت کیا
 اوسنی اذارک کو اکثر ہی میں گرسے وہ اذرک پالیا اوسنی اذکر یاد کیا اوسنی اذارا تم
 اختلاف کیا تمی اذرو اذور کر دو تم اذ ہاری اذار پینچا نا اذوا حوالہ کر دو تم *

فصل الالف مع الذال

اذ

اذن کان اذنین دوکان اذن پروانگی اذنت کان رکھا اوسنی اذنت
 پروانگی دی تو نے اذن پروانگے دی گئے اذن بچار اوسے اذن بچار تو اذن
 خبر دینی اذل بڑا ذلیل اذلہ خوار اور نرم اولین ذلیل سب اذاعوا مشہوکیا اذہور
 اذمتب جا اور لیجا تو اذمجا جاو تم دو نو اذمجا جاو اور لیجاو تم اذمتب لگیا وہ اذمجا
 لگئے تم اذاق چکھا یا اوسنی اذقنا چکھا یا مئے اذقان ٹھڈیاں اذکر یاد کرونگا
 میں اذکر و یاد کرو تم اذمی اذمی نجاست اور تکلیف اذ جس وقت
 اذاجب اور یکایک اذمجا بچ کر تا ہوں میں *

فصل الالف مع الراء

ار

ارسل بھیجا اوسنی ارسلوا بھیجا اوہوں نے ارسلت بھیجا ارسلت بھیجا
 تو نے ارسلنا بھیجا مئے ارسل بھیجا گیا وہ ارسلوا بھیجے گئے وہ ارسلتم
 بھیجے گئے تم ارسلنا بھیجے گئے ہم ارسل بھیجے گا میں ارسل بھیج تو ارسلوا بھیجو تم
 ارمی دیکھتا ہوں میں اور دیکھا یا اوسے ارشید کہا مئے ارمی دیکھتا ہوں
 میں ار دیکھتا ار و دکھاو تم ار اذ چاہا اوسے ار اذ چاہا دونوں نے
 ار اذوا چاہا اوہوں نے ار ذل چاہا اوہوں نے اذ (ش) ار و تم چاہا مئے

اَرَوْتُ جَا مِیْنِ اَرُوْنَا جَا مِیْنِ اَرِیْدُ جَابِتْ مِیْنِ اِرْحَمُ حَسْمُ كَرُوْتُ
 اِرْحَمُ بَرَحْمُ وَا لَا اِرْحَامُ بِحَدَانِ اَرْمِیْحُ جَرَاوُنْ گامین اِرْكُحُوا جِكُوا اَوْرُ كُوعُ كَرُوْتُ
 اِرْحَمِیْ جَبْکْ تَوْتُ اِرْبَابُ اِلٰهِنِیْ وَا لِیْ اَوْرُ مَرْبِیْ سَبْ اِرْتَابُ شَكَا اِوَسْنِیْ اِرْتَابُ
 شَكْ كِیَا اَوَهِنُ لَیْ اِرْتَابُ شَكْ كِیَا اِوَسْنِیْ اِرْتَابُ شَكْ كِیَا مَتْنِ
 اِرْكَسْ اَوْتُ دِیَا اِوَسْنِیْ اِرْكِسُوا اَوَلْ كَیْ دَهْ اِرْحَلْ پَاوُنْ سَبْ اِرْوَلْ كِیْنَا
 اِرْوَالْ كِیْسِنِیْ اِرْوَلُوْنْ نِیْجْ قَوْمُ لُوكْ اِرَاوَلْ نِیْجْ قَوْمُ دَا لَیْ اِرْحَادُ تَا كِیْنَا
 اِرْكَبْ سَوَارُ مِیْتُ اِرْكَبُوا سَوَارُ مِیْتُمُ اِرْقَبْ رَا هْ دِكِبْهُ تُو اِرْقَبُوا تَا كِیْتُ
 اِرْجَبْ دُهِیْلُ دِیْ تُو اِرْجَبْ پَرَجَاوُنْ گامین اِرْجَبْ پَرَجَاوُنْ جُجُوا پَرَجَاوُنْ
 اِرْجَبِیْ پَرَجَاوُنْ اِرْجَبِیْ رُوْزِیْ دِیْ تُو اِرْجَبِیْ رُوْزِیْ دِوْمُ اِرْجَبِیْ
 كِیَا دَهْ اِرْجَبِیْ اَوَلْ پَرِیْ دُو نُوْنِ اِرْجَبِیْ اَوَلْ پَرِیْ كَیْ دَهْ اِرْجَبِیْ اَوَلْ
 زِیَادَهْ فَادَهْ مَنْدُ اِرْكَبْ تَحْتِ اِرْحَمُ سَنَسَا رُكُوْنِ گامین اِرْعَوَا جِرَاوُنْ اِرْعَوَا
 رَا صِیْ مِیْوَ اِرْضَعْتُ دُو دَهْ پَلَا یَا اِوَسْنِیْ اِرْضَعْتُ دُو دَهْ پَلَا یَا اِوَهِنُ
 اِرْحَمُ اِرْضَعْتُ دُو دَهْ پَلَا تُو اِرْحَمُ اِرْحَمُ اِرْحَمُ اِرْحَمُ اِرْحَمُ اِرْحَمُ
 كَسَا رِیْ اِرْحَمُ زَمِیْنِ اِرْحَمُ خَا رِیَا اِوَسْنِیْ اِرْحَمُ بُو جِبْ رُكَبَا اِوَسْنِیْ اِرْحَمُ
 خَوَ اِرْحَمُ كَرُوْتُ اِرْحَمُ لَاتُ مَارُ تُو اِرْحَمُ جَارُ اِرْحَمُ جَارُ اِرْحَمُ جَارُ اِرْحَمُ جَارُ
 اِرْحَمُ نَامُ شَهْرُ كَا بَیْ بِنَا مِیْوَ اِدْبَنُ عَادُ كَا

از

فصل الالف مع الزاء

اِرْوَا جُ جُوْرِیْ اَوْرُ مِثْلِیْنِ اِرْوَا جُ پَیْرُ دِیَا اِوَسْنِیْ اِرْوَا جُ دُگَا یَا اِوَسْنِیْ مِیْنِ لُكُورِ
 دِیْ اِوَسْنِیْ اِرْوَا جُ بَیْطُ پَا كِیْرَهْ اِرْوَا جُ دُوْوَ زِیَادَهْ مِیْنِ دَهْ اِرْوَا جُ زِیَادَهْ كَرُوْنُ
 مِیْنِ اِرْوَا جُ پَانِیْ اِرْوَا جُ اِرْسَبْ كَرُوْنُ گامین اِرْوَا جُ خُوشُ مَنَا مِیْوَ
 اِرْوَا جُ نَزْدِیْكُ پَیْچَا مِیْنِ اِرْوَا جُ پَسْ لَائِیْ كَیْ دَهْ اِرْوَا جُ اَوْبَهَارُ اِوَسْنِیْ

اُذْرُكِرْ اَزْ قَتِّ نَزْدِيْكَ اَنْتَ وَهْ اَزْ وَجْهٍ جَسْرٍ كَا كِبَاوَهْ ۛ

فصل الالف مع السين

اِسْمَاعِيْلَ نام ہے ایک پیغمبر کا جو بڑے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 بیٹے سے ماجرہ رضی کے اِسْمٰحِق یہ بھی نام ہے ایک پیغمبر کا جو چوٹے بیٹے
 تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بطن سے ساوہ رضی کے اِسْمٰحِق نام ہے
 عبرانی زبان میں حضرت یعقوب کا بیٹے اسحاق کے اِسْم نام اِسْمَار نام سب
 اِسْتَوْقَدْ سَلْگایا اوسنی سید ماہو اوہ اور ارادہ کیا اوسنی اِسْتَوْتْ ہیری
 اِسْتَوْتِ سوار ہوا تو اِسْتَوْتِ سید ہے ہوئے تم اور سوار ہوئے تم
 اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ کرنا اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ کیا اوسنی اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا
 اوہوں نے اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ کیا تو نے اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ تم غور کیا تم نے اِسْتَلْبَا
 بس تو اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ یا مینی اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ
 دو تم اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ پلاتا ہوں میں اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ پانی مانگا اوسنی
 اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ پلاتا ہوں اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ
 میں اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ
 سنا اوہوں نے اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ
 ہے اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ
 نے اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ
 اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ
 تم اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ
 اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ
 رکھا اوہوں نے اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ اِسْتَلْبَا رَعْدُورِ

5

اِسْمَاعِيْلَ

اِسْتَلْبَا

اِسْتَاذَنْ رِخْصَتِ مَا نَمَلِي اَوْ سِنِي اِسْتَاذَنْ لَوْ اَرْخِصْتَ جَاهِي اَوْ نَهْنُونَ سِنِي
 اِسْتَسَّ نِيورِ كِهِي اَوْ سِنِي اِسْتَسَّ بَايَا رِ كِهَا كِيَا دِه اِسْتَسْتَبَشِرْ وَاخُوشِ هُو مِ
 اِسْتِعْجَالَ سْتَانِي كَرْنِي سْتَعْجَلْتُمْ سْتَانِي كِي مَتِي اِسْتَرِي سِي كَرَانِي اَوْ سِنِي
 اِسْتِرَاكُوسِي كَرْتُو اِسْتَخْلَصْ نَزَا لَا كَرُونِ كَا مِينِ اِسْتَحْرَجْ كَالَا اَوْ سِنِي اِسْتِيَاَسْ نَا مِيدِ
 هُو اَوْ اِسْتِيَاَسُونَا مِيدِ هُوِي دِه اِسْفْ غَمِ هِرَا اِسْفِي اِفْوسِ اَسَا طِيْرِ
 كِهَا نِيَانِ اِسْتَفْحُوْا فَيْصِلِه جَا نَا اَوْ نَهْنُونَ نِي اِسْتَكْفُوْا حَيْبِ جَا نَا اَوْ نَهْنُونَ نِي
 اِسْتَحْيَا رِحْيَا جَانِي اِسْتَحْيَ جِيَا چُوْرُونِ كَا مِينِ اِسْتَحْيُوْا حَيْبَا چُوْرُو مِ
 اِسْتَرْقِ جَرِيَا اَوْ سِنِي اِسْتَبْرُقْ نَا فَنَهْ اُسْتَكْ جَلَا تُو اِسْتَكُوْا جِلْدَا دَرِ جِي كَرُو مِ
 اِسْتَكْلِكِ جَلِ تُو اَسْوَا رِ بِيْتِ بَرَا اَسَا رِ بَرَا كِيَا اَوْ سِنِي اَسَا رِ وَا بَرَا كِيَا اَوْ نَهْنُونَ نِي
 اَسَا رِ بَرَا كِيَا مَتِي اِسْتَفْرِزْ كِهِي رِ تُو اَسْوَرِ كَنْگِنِ اَسَا وِرِ بِيْتِ كَنْگِنِ سْتَطْعَا كِهَا نَا
 جَا نَا دُو نُونِ نِي اِسْتِرَافِ بِي فَا نَدِه خُرْجِ كَرْنَا اِسْرَفِ بِي نَا دِه خُرْجِ كِيَا اَوْ سِنِي
 اِسْرَفُوْا حَيْبِي بُرْ هِي دِه اَسْوَا قِ بَا زَارِ سَبِ اِسْقِطْ كَرَا تُو اِسْتَيْقِنْتَ بِي سِرِ
 كِيَا اَوْ سِنِي اِسْتَيْقِنْتَ بُو جِه تُو اِسْتَفَا شْ فَرِيَا دِ جَاهِي اَوْ سِنِي اِسْلَحْ هَيْتِيَا رِجِ
 اِسْتَجَارْ نُو كَرِ كِهَا اَوْ سِنِي اِسْتَا جَرْتِ نُو كَرِ كِهَا تُو سِنِي اِسْتَا جَرْتِ نُو كَرِ كِهِي تُو
 اَسْوَا هِي رُوِي اِسْتَعْلَا دِي جَا هُوَا دِه اِسْتَرْجِ رِخْصَتِ كَرِ نِگَا مِينِ اِسْتَا بِيَا يَا
 هِينِي اِسْتَفَا رِ كِتَابِيْنِ اَوْ رِ سَفْرِي جِ اِسْتَعْمَرْ بَا يَا اَوْ سِنِي اِسْتَعْنِي بِي پَرِ وَا ئِي كِي
 اَوْ سِنِي اِسْتَبَابِ عِلَاقِي اَوْ رِ رِ سْتِي اَوْ رِ سْتِي اِسْتَمْسِكْ مَضْبُوْطِ بِي كَرْتُو اِسْتَحْفَتْ
 بِي وُقُوْفِ جَا نَا اَوْ سِنِي اِسْتَحْلَفْ خَلِيْفَه كِيَا اَوْ سِنِي اِسْتَرْهَبُوْا دَرِيَا اَوْ نَهْنُونَ نِي
 اِسْتَحْطِ بِي زَارِ كِيَا اَوْ سِنِي اِسْتَحْطِ مَوْثَا هُوَا دِه اِسْتَبْعِ بُوْرَا كِيَا اَوْ سِنِي اِسْتَحَارِ صَبْحِ كِهِي
 دُو مَتِ اِسْتَحْوُوْا قَابُو بَا يَا اَوْ سِنِي اِسْتَعْوَا دُو مَتِ اِسْتَعْمُوْا بِي سَبِ اِسْتَفْرِ رِ شُوْا

اِشْتَرَى مَوْلَى اَوْ سِنَى اِشْتَرَى وَ اَمَوَلِ اَوْ اَمَوَلِ اَوْ اَمَوَلِ اَوْ اَمَوَلِ اَوْ اَمَوَلِ اَوْ اَمَوَلِ
 بے تو اشد بہت سخت اشد قوت اور زور اشد زبردست سب اشد
 مضبوط کرو گھامین اشد و سخت کرو تو اشدت زور کیا اوسنے اشرک شریک
 کیا اوسنے اشرک کو اشریک پھیرایا اوہون نے اشرکت شریک
 تو نے اشرک تم اشرک تم اشرک پھیرایا تم نے اشرک کو اشریک کیا ہے
 اشرک شریک کروں گا میں اشرک شریک کرو تو اشرک شریک کرو گھامین
 اشرک و احسان یا تو تم اشرکار بال سب اشدات پر گندہ اشرکار
 جیسے اشد گواہی دیتا ہوں میں اشد گواہ ہو تو اشد گواہ ہو تم اشد
 گواہ رکھا اوسنے اشدت حاضر کیا میں اشد گواہ کرو تو اشد گواہ رکھو تم
 اشد گواہ سب اشدت ملی وہ اشار جاہوں گا میں اشد گواہ بیان کرتا
 ہوں میں اشد بہت سخت اشدت کھلیف میں اشدت اشدت چیرن اشدت
 شعلہ پکڑ ایسے سفید ہوا وہ اشارت ماہد سے تا یا اوسنے اشارت اشدت کہوں اشدت
 جاننے اشدت نجیب اشدت ذرین وہ اشدت ذری تم اشدت صبح کا وقت
 اشدت چکے وہ اشدت اشدت برے لوگ اشدت تنگ ہوے وہ
 اشدت نشانیاں اشدت برائی کروں الا اشدت اشدت لوگ اشدت بڑا بہت

اصی

فصل الالف مع لہداد

اصحاب یارون اصابع او گھلیان اصبح در گذر کر تو اصبح اور گذر کر دم
 اصغر بہت چوٹا اصطبر صبر کرو اصطبر سہار تو اصبر و اصبر کر دم صبر
 بڑا سہارنی والا اصبح ہو گیا وہ اور صبح کی آہنی اصبحوا ہوئے وہ اصحت
 ہوئے وہ اصبح ہوئی تم اصباح صبح کے روشنی اصطفی پسند کیا آہنی
 اصطفیت پسند کیا نین نی اصطفینا پسند کیا ہم نے اصطنعت بنایا

اِضْلَاحٌ سَنَوْرًا ضَلَحَ سَنَوْرًا اَوْ صَلَحَ كِي اَوْ سَنِي صَلَحًا اَوْ صَالِحٌ هُوَ نَوْرٌ اَوْ صَلَحٌ اَوْ سَنَوْرٌ
 كَيْفَا وَهَنُونَ لَمْ يَضْلَعُوا اِجَابًا كَيْفَا مَعْنَى اَضْلَحَ صَلَحَ كَرْتُو اَضْلَعُوا صَلَحَ كَرْتُو مَ اَصَابَ بِنَجْوَى
 اَصَابَتْ بِهِيَ نَجْوَى هُوَ اَضْنَمٌ هُوَ نَجْوَى مَعْنَى اَضْنَمًا بِنَجْوَى هُوَ اَضْنَمٌ هُوَ نَجْوَى كَا مَعْنَى اَضْنَمٌ
 مِيلَ كَرُونِ كَا مَعْنَى اَضْرَبُوا وَجْهًا اَوْ رِجْلًا اَوْ اَضْرَابَ بِشَيْءٍ اَوْ اَضْرَابَ سَوَّلَ جَرَاوُنَ كَا مَعْنَى
 اَضْدَقَ اَوْ اَسْجَا اَضْدَقَ خَيْرَاتُ كَرُونِ كَا مَعْنَى اَضْطَا اَوْ اَشْكَرَ كَرْتُو مَ اَضْرَفَ
 بِهَيُونَ كَا مَعْنَى اَضْرَفَ بِهَيَا اَوْ هَيَا اَوْ اَضْرَفَ اَوْ نَ (ج) اَضْوَاتُ اَدَارِينَ
 اَضْيَلُ شَامِ اَضْمَ بِهَيَا اَضْلُ جَرَاوُنَ جَرِينَ اَضْنَعُ بِنَادِي اَوْ اَضْفَادُ
 زَنْجِيرِينَ اَضْدَعُ صَاغٌ كَبِهَ تُو اَضْفَعُ مَعْنَى دِيَا اَوْ سَنِي اَضْرَوُ اَضْدَكُ اَوْ هَنُونَ لَمْ
 اَضْلَعُوا بِهَيُونَ اَضْلَعُوا بِهَيَا اَوْ نَجْوَى كَا مَعْنَى اَضْنَمٌ مَعْنَى اَضْنَمٌ

فصل الالف مع الصاد

اصن

اَضْنَاءٌ جَمْعٌ اَوْ سَنِي اَضْنَاءُ تَجَمُّعًا اَوْ سَنِي (ش) اَضْرَبَ مَارْتُو اَضْرَبُوا
 مَارْتُو مَ اَضْطَرَّ نَاچَارَ كِيَا وَهَ اَضْطَرَّ مَعْنَى نَاچَارَ كَيْ كَيْفَا مَعْنَى اَضْطَرَّ نَاچَارَ كَرْتُو كَا
 مَعْنَى اَضْلَحَ بَرَا كَرَاهِ اَضْلَحَ كَرَاهِ كَرَاهِ اَوْ سَنِي اَضْلَحَ كَرَاهِ كَرَاهِ كَرَاهِ اَوْ سَنِي
 كَرَاهِ كَرَاهِ سَبَّ لَمْ اَضْلَحَنَّ بِهَيَا اَوْ هَيَا اَوْ اَضْلَحَنَّ مَعْنَى كَرَاهِ كَرَاهِ كَرَاهِ
 مَعْنَى اَضْعَافُ دُونَ اَضْعَافٍ بِرَاكِنْدَه ضَعْفَانِ دَشْمَنِ سَبِّ اَضْعَافُ اَكْتَوِيَا اَوْ هَيَا
 اَضْنَعُ نَاچِزْ كَرُونِ كَا مَعْنَى اَضْحَكَ بِهَيَا اَوْ سَنِي اَضْنَعُ مَعْنَى اَضْنَعُ مَعْنَى اَضْنَعُ

فصل الالف مع الطاء

اط

اَطَاعَ فَرْمَانَ بَرْدَارِي كِي اَوْ سَنِي اَطَاعُوا فَرْمَانَ بَرْدَارِي كِي اَوْ هَنُونَ لَمْ يَطْعَنُوا
 فَرْمَانَ بَرْدَارِي كِي اَوْ هَنُونَ لَمْ يَطْعَنُوا (ج ش) اَطْعَمُوا اَطْعَمُوا فَرْمَانَ بَرْدَارِي كِي
 تَعْنَى اَطْعَفَ فَرْمَانَ بَرْدَارِي كِي مَعْنَى اَطْيَعُوا فَرْمَانَ بَرْدَارِي كَرْتُو مَ اَطْعَنَ
 فَرْمَانَ بَرْدَارِي كَرْتُو مَ (ش) اَطْمَأَنَّ اَرَامٌ بِكُرْ اَطْمَأَنَّ اَطْمَأَنَّ اَطْمَأَنَّ اَطْمَأَنَّ اَطْمَأَنَّ

ہوئے وہاں اظہارِ غم و خاطر جمع ہوئی تم اظہر خوب پاک اظہروا خوب پاک کرو تم
 اطعام کہانا کھلانا اطعم کہلایا اوسنی اطعموا کھلاؤ تم اطراف کناری اوسنی
 شادی تو اظہر خواہینیک کہ دم اطلع خبردار ہوا وہ اطلعت خبردار ہوا تو
 اطلع جہانکون گامین اطفال لڑکے اطلع توقع رکھتا ہوں میں اظہروا
 بدفالی پکڑی ادہون نے اظہر نامخوس جانا ہنے اطفے مجھایا اوسنی اطفے
 بڑا شریر اطفیت شرارت میں ڈالا میں نے اظوار کے طرح

اظ

فصل الالف مع الطار

اظلم ظلم کیا اوسنی اور اندہیر کیا اوسنی اظلم بڑا بی انصاف اظلم
 کمان کرتا ہوں میں اظہر ظاہر کیا اوسنی اظفر فتح دی اوسنی :

اع

فصل الالف مع العین

اعراف نام گہرون کا ہے درمیان بہشت اور دوزخ کے اعجد عبادت
 کرتا ہوں میں اعجد بندگی کر تو اعجد و ابندگی کرو تم اعده تیار کیا اوسنے
 اعده و تیار کیا ادہون نے اعثدت تیار کیا اوسنی (ث) اعثدنا تیار کیا
 ہنے اعثدت تیار کی گئی وہ اعده و تیار کرو تم اعثدمی زیادتی کی اوسنی
 اعثدوا زیادتی کی ادہون نے اعثدنا حد سے بڑھے ہم اعثدوا زیادتی
 کرو تم اعلم جانتا ہوں میں اور بڑا خبردار اعلم جان تو اعلموا جانو تم
 اعلمے اندھا اور اندھا کیا اوسنی اعوڈ پناہ چاہتا ہوں میں اعیند پناہ میں
 دیتا ہوں میں اعف معاف کر تو اعفووا مساف کرو تم اعمال کام سب
 اعمل کام کرتا ہوں میں اعلم بناؤ کام کر تو اعلموا عمل کرو تم اعتمر زیارت
 کی اوسنی اعنت مثل میں ڈالا اوسنی اعجت خوش کیا اوسنی اعجبت خوش
 کیا اوسنی (ث) اعتمل گوشہ لیا اوسنی اعتمر لٹموا کھنار پکڑا اوسنی اعتمزل گوشہ

اِصْلَاحُ سِنُوْرًا صُلِحَ سِنُوْرًا اَوْ صُلِحَ كِي اَوْ سِنِيٌّ اِصْلَاحٌ صُلِحَ هُوْنِيٌّ هُوْدُوْنُوْا اَوْ صُلِحُوْا اَوْ
 كِيْدَا وُهَوْنُوْنَ لِي صُلِحُوْا اِجْمَاعًا مَعْنَى اِصْلَاحُ صُلِحَ كَرُوْا اَوْ صُلِحُوْا صُلِحَ كَرُوْا مَعْنَى اَصَابَ اِجْمَاعًا
 اَصَابَتْ يَهْوِجِيٌّ هُوَ اَصْنَعْتُمْ يَهْوِجِيٌّ مَعْنَى اَصْنَعْتُمْ اِجْمَاعًا مَعْنَى اَصْنَعْتُمْ يَهْوِجِيٌّ هُوْنِيٌّ اَصْنَعْتُمْ
 مِيْلُ كَرُوْنُ كَا مِيْنُ اِضْرِبُوْا جُوْبًا اَوْ رُوْمًا اَوْ اَصْلَابًا يَهْبِيْنُ اَصْلَابٌ سُوْلَةٌ سُوْلَةٌ سُوْلَةٌ اَوْ اَصْلَابٌ سُوْلَةٌ
 اَصْدَقُ اَوْ اِجْمَاعًا اَصْدَقُ خِيْرَاتُ كَرُوْنُ كَا مِيْنُ اِضْطَاوُ وَاَوْشَاكُ كَرُوْمًا اَصْرَفْتُ
 يَهْرُوْنُ كَا مِيْنُ اِضْرَفْتُ يَهْرُوْرٌ مِيْنًا اَوْ اَصْوَابٌ اَوْ اَوْ (ج) اَصْوَاتٌ اَوْ اَزِيْنُ
 اَصِيْلٌ شَا مِ اَصْمٌ يَهْرَا اَصْلٌ جُرْ اَصْوَلٌ جُرِيْنُ اِصْنَعُ بِنَادِيٍّ اَوْ اَصْفَادُ
 زَيْجِرِيْنُ اِصْدَغُ صَاغٌ كَبُوْرٌ اَوْ اَصْفَى جُنُودٌ اَوْ سِنِيٌّ اَصْرُوْا اَصْدَكُ اَوْ هَوْنُوْنَ لِي
 اِصْلُوْا اِجْمَاعًا اِصْلِيٌّ يَهْوِجِيٌّ نُوْنُ كَا مِيْنُ اَصْنَعْتُمْ اِجْمَاعًا مَعْنَى اَصْنَعْتُمْ

فصل الالف مع الصاد

اص

اَصْنَاءٌ جَمْعٌ اَوْ سِنِيٌّ اَوْ صِنَاوَاتٌ جَمْعٌ اَوْ سِنِيٌّ (ث) اِضْرِبْ مَا رُوْا اِضْرِبْ لُوْا
 مَا رُوْمًا اِضْطَرُّ نَا جَارُ كِيَا وَاَوْ اِضْطَرُّ مَعْنَى نَا جَارُ كِيَا مَعْنَى اِضْطَرُّ نَا جَارُ كِيَا
 مِيْنُ اِصْلٌ بَرُّ اِجْمَاعًا اِصْلٌ كَرَاهِيٌّ اَوْ سِنِيٌّ اِصْلًا كَرَاهِيٌّ كِيَا اَوْ نُوْنُ لِي اِصْلُوْا
 كَرَاهِيٌّ كِيَا سَبُّ لِي اِصْلَلْنُ يَهْوِجِيٌّ اَوْ هَوْنُوْنَ لِي اِصْلَلْتُمْ كَرَاهِيٌّ مَعْنَى اِصْلَلْتُمْ كَرَاهِيٌّ
 مِيْنُ اِصْنَاعٌ وَاَوْ اِصْنَاعَاتٌ پَرَا كِنْدَهٌ اِصْنَعَانُ دُشْمَنٌ سَبُّ اِصْنَاعُوْا اِصْنَاعُوْا اَوْ اِصْنَاعُوْا
 اِضْنِيْعٌ نَا جِيْرُ كَرُوْنُ كَا مِيْنُ اِضْحَاكٌ يَهْنَا اَوْ سِنِيٌّ اِضْعَفْتُ بِيْتٌ كَمُ زُوْرٌ

فصل الالف مع الطاء

اط

اَطَاعَ فَرِيَانَ بَرُوْدَارِيٍّ كِيَا اَوْ سِنِيٌّ اَطَاعُوْا فَرِيَانَ بَرُوْدَارِيٍّ كِيَا اَوْ هَوْنُوْنَ لِي اَطَاعُوْا
 فَرِيَانَ بَرُوْدَارِيٍّ كِيَا اَوْ هَوْنُوْنَ لِي اَطَاعُوْا (ج) اَطَعْتُمْ اَطَعْتُمْ اَطَعْتُمْ فَرِيَانَ بَرُوْدَارِيٍّ كِيَا
 مَعْنَى اَطَعْتُمْ فَرِيَانَ بَرُوْدَارِيٍّ كِيَا اَوْ هَوْنُوْنَ لِي اَطَعْتُمْ فَرِيَانَ بَرُوْدَارِيٍّ كِيَا
 فَرِيَانَ بَرُوْدَارِيٍّ كَرُوْمًا (ث) اَطْمَانٌ اَرَامٌ يَهْوِجِيٌّ اِطْمَانٌ اَوْ اَطْمَانٌ اَوْ اَطْمَانٌ اَوْ اَطْمَانٌ

ہوئے وہاں ظلم انہیں تو خاطر جمع ہوئی تم اظہر خوب پاک اظہر وا خوب پاک کرو تم
 اِطْعَمْ کہانا کہلانا اِطْعَمْ کہلایا اوسنی اَطْعَمُوا کہلاؤ تم اَطْرَافِ کناری اِطْسِ
 شادی تو اِطْرَحُوا پہنک کر دم اِطْلَعْ خبردار ہوا وہ اِطْلَعْتَ خبردار ہوا تو
 اِطْلِعْ جانکون گامین اِطْفَالِ رُکے اِطْمَعُ توقع رکھتا ہوں میں اِظْهِرُوا
 بد حالی پکڑی اوہوں نے اِظْهِرْنَا منہوس جانا ہئے اِظْفَعْ بھجایا اوسنی اِظْفَعْ
 بڑا شریر اِظْفَعْتَ شرارت میں ڈالا میں نے اِظْوَارِ کئے طرح

اظ

فصل الالف مع الطاء

اِظْلَمَ ظلم کیا اوسنی اور اندھیرا کیا اوسنی اِظْلَمَ بڑا بی انصاف اِظُنْ
 کمان کرتا ہوں میں اِظْهَرَ ظاہر کیا اوسنی اِظْفَرَ فتح دی اوسنی ۛ

اع

فصل الالف مع العين

اَعْرَافِ نام گہروں کا ہے درمیان بہشت اور دوزخ کے اَعْبُدْ عبادت
 کرتا ہوں میں اَعْبُدْ بندگی کر تو اَعْبُدْ وَا بَدْ گئی کرو تم اَعَدَّ تیار کیا اوسنی
 اَعَدُّ وَا تیار کیا اوہوں نے اَعْتَدْتُ تیار کیا اوسنی (ش) اَعْتَدْنَا تیار کیا
 ہئے اَعَدْتُ تیار کی گئی وہ اَعَدُّ وَا تیار کرو تم اِعْتَدِي زیادتی کی اوسنی
 اِعْتَدُوا زیادتی کی اوہوں نے اِعْتَدْنَا حد سے بڑھے ہم اِعْتَدُوا زیادتی
 کرو تم اَعْلَمْ جانتا ہوں میں اور بڑا خبردار اِعْلَمْ جان تو اِعْلَمُوا جانو تم ۛ
 اَعْمَى اندھا اور اندھا کیا اوسنی اَعْوَدُ پناہ چاہتا ہوں میں اَعِيذُ پناہ میں
 دیتا ہوں میں اَعْفُ معاف کر تو اَعْفُوا معاف کرو تم اَعْمَالِ کام سب
 اَعْمَلُ کام کرتا ہوں میں اِعْمَلْ بناؤ کام کر تو اِعْمَلُوا عمل کرو تم اِعْتَمِرْ زیارت
 کی اوسنی اَعْمَتَتْ مشکل میں ڈالا اوسنی اَعْجَبْتُ خوش کیا اوسنی اَعْجَبْتُ خوش
 کیا اوسنی (ش) اِعْتَمَلْ گوشہ لیا اوسنی اِعْتَمَرْتُ اکنار پکڑا اوسنی اِعْتَمَلْ گوشہ

کرتا ہوں میں اعتراف لو انکاری رہو تم اَعْنَابُ انگوڑی سب اِحْصَارُ بگولا
 اَعْدِبْ عذاب کروں گا میں اِعْتَصِمُوا مضبوط پکڑو اور ہوں نے اِعْتَصِمُوا
 مضبوط پکڑو تم اَعْدَاؤِ دُشمن سب اَعْلَسُ سب سی اوپر اَعْلَوْنَ اونچے ہوئیو
 اَعْتَقَبْ بھی لایا وہ اَعْقَابُ ایزبان اِعْوَضْ منہ پیرنا اِعْوَضْ منہ پیرا اوسنی
 اِعْرَضُوا منہ پیرا اور ہوں نے اِعْزَمْتُ منہ موڑا تم نے اِعْرَضْ تناقل کرو تو اِعْرَضُوا درگزر تم
 اَعْدِلْ انصاف کرتا ہوں میں اَعْدِلُوا انصاف کرو تم اِعْجَلْ جلدی کے
 اوسنی اِعْرَءُ زبردست اور عورت ولی اَعَزُّ بہت عزیز اَعْيُنُ آنکھیں اَعْظَمُ
 بہت بڑا اَعْرَابُ گنوار اِعْتَرَفُوا اقرار کیا اور ہوں نے اِعْتَرَفْنَا اقرار کیا میں نے
 اِعْطُ نصیحت کرتا ہوں اِعْتَرَّ جھپٹ لیا اوسنی اِعْصُرْ خچڑتا ہوں میں
 اَعْنَقُ گردنیں اِعْتَرْنَا کہو لیا میں نے اِعْصَدْنَا فرمائی کروں گا میں اَعْيَبُ
 عیب لگاؤں گا میں اَعَانَ مدد کی اوسنی اَعْيَنُوا مدد کرو تم اِعْطُ دیا اوسنی
 اَعْطَيْنَا دیا میں نے اَعْطُوا دے گی وہ اَعْطِ دے تو اَعْيِدُوا بھر ڈالی گئی وہ
 اَعْرَجْ لنگرا اَعْمَامُ چپب آعجمی عجم والا اَعْمِیْنُ عجم والی اَعْصَدُ عہد کرتا ہوں
 میں اَعْلَامُ بہاڑ سب اَعْتَلُوا بڑھاؤ تم اَعْجَازُ جبین اَعْتَبِرُوا عبرت پکڑو تم
 اَعْلَنْتُ ظاہر کیا میں نے اَعْلَنْتُ ظاہر کیا میں نے

فصل الالف مع الغین

اَعْلَطُ سختی کر تو اِعْتَرَفْ چلو سے لیا اوسنی اَعْلَالَ طوق سوج اَعْنَتُ
 عنی کیا اوسنی اور کام آیا وہ اَعْنَتُ بے پروا کیا اوسنی اَعْنَتُ کام
 اَوْنُ گا میں اَعْنِيَا رالدار سب اَعْنُوا ہوؤ تم اَعْرَثِيَا لگا دیا ہم نے
 اَعْنِيَا ڈالنا میں نے اَعْنِيَتْ ڈالنا ہی گئی وہ اَعْنُوَيْتُ گمراہ کیا تو میں
 اَعْنُوَيْتَا بھکا یا میں نے اَعْنُرُ معاف کر تو اَعْنُوَيْتُ گمراہ کروں گا میں اَعْرَفْنَا

أَعْرَقْنَا دُبَايَاهِنِي أَعْرَقْنَا دُبَايَاهِنِي كَيْ وَهْ أَغْلِبُ غَالِبٌ هُوْنَ كَامِيْنَ أَعْطَشْتُ
اندھیر کیا اوسنی اَعْطَشْتُ بچے کر تو اَعْطَشْنَا غَالِبٌ کِیَا ہِنِی اِعْدُوْا صِبْحُ کُوْا وُتْمُ

اف

فصل الالف مع الفاء

اِتَّكَ بَيْتَانِ اُفَكَ پھیرا گیا اور لوندھا کیا گیا وہ اَفَاكٌ بڑا جھوٹا اَفَا
ہوش میں آیا وہ اَفَلٌ چب گیا وہ اَفَلْتُ غَابٌ ہوی وہ اِفْعَلٌ کر تو اِفْعَلُوا
کر وتم افواہ سنہ (ج) اَفَضْتُمْ پہچا وہ اَفَاضٌ جلا وہ اَفَضْتُمْ چلے تم اور چڑھ گیا تم
اَفِيضُوا چلو تم اِقْتَدِي خذیدہ دیا اوسنی اِقْتَدُوا خذیدہ دیا وہ ہون نے اِقْتَدَتْ
بدلا دیا اوسنی (ش) اِقْتَرَا تہمت اِقْتَرَمِي تہمت باندھی اوسنی اِقْتَرَيْتُ جھوٹ
باندھا میں اِقْتَرَيْتُ جھوٹ باندھا میں اَقْتَبَانِ کر تو اَقْتَبُوا بیان کر وتم اور
صلاح دو تم اَقْتُوْزِ پہنچون گامین اُقْرِقْ جدا کر تو اَقْرَبَا دیا اوسنی اَفْتَحْ کھول تو
اَفْرَجْ ڈالون گامین اَفْرُغْ ڈال تو اَفْضَحْ بہت گویا اَفْدَهُ دلوں اَف
یہ لفظ جہر کہنے کا ہے اَفْلَحْ نجات پائی اوسنی اَفْدُوا بجاؤ اور ہون نے اَفْوَجْ
سوچتا ہوں میں اَفْتَانِ سناخیں اَفْسَحُوا کشادہ کر وتم اَفْوَجْ قافلے اَفْوَجْ
فصل الالف مع القاف اِقَامَ سید ہر کرنا اِقَامَ سید ہا گیا اوسنی اِقَامُوا قَامَ کیا اور ہون
نے اِقَمْتُ قَامَ کیا تو نے اِقْتَمْتُ کھا گیا تم نے اِقَمْتُ سید ہا کر تو اِقْتَمُوا سید ہا
کر وتم اِقْمَنْ قَامَ کر وتم (ج ش) اِقَامُوا قَامَ بہت سید ہا اِقْتَلْ ہلاک
کروں گامین اِقْتَلُوا مار ڈالو تم اِقْتَلْ لڑائی کی اوسنی اِقْتَتَلُوا لڑائی کی
اور ہون نے اِقْتَرَمْتُ اِقْرَبَا کیا تم نے اِقْرَبْنَا اِقْرَبَا کیا میں نے اِقْفَالٌ قفل سب
اِقْرَبٌ بہت نزدیک اِقْرَبُونَ رشتے والے اِقْتَرَبٌ نزدیک ہوا وہ اِقْتَرَبْتُ
پاس آئی وہ اِقْتَرَبٌ نزدیک ڈھونڈا تو اِقْتَمُوا تم کہا بے اور ہون نے
اِقْتَمْتُ تم کہا ہی تم نے اِقْتَمْتُ سگند کہا تا ہون میں اِقْطُطْ خوب انصاف

اق

اَقْسَطُوا الصَّفَافَ كَرِهْتُمْ اُقْتِنْتُمْ بِنَدِیْ كَرِهْتُمْ اَقْلَامُ قَلَمِ رَج (ج) اَقْدَامُ بَادُونَ (ج)
اَقْدَمُونَ اَقْلُ اَقْرَضُوا اَوْدًا رَدِیَا اَوْنَهُنَّ لَمْ اَقْرَضْتُمْ اَوْدًا رَدِیَا تَنْ اَقْرَضُوا
اَوْدًا رَدًا اَقْطَعُوا كَاثُرًا اَقْطَعُ مَكْرُئِیْ مَكْرُئِیْ كَرِهْتُمْ اَقْلُ بَیْتٌ كَمْ اَقْلَتْ
اَوْبَانِیْ اَقْوَلُ كَبْتَا بَیْتِیْنَ اَقْلُ اَقْوَلُ بَاتِیْنَ اَقْعُدُ بَیْتُونَ كَامِیْنَ اَقْعُدُوا بَیْتَهُمْ
اَقْضِ حَلْمٌ كَرِهْتُمْ اَقْضُوا اِرْجُوْتُمْ اَقْضُضْ بَیَانٌ كَرِهْتُمْ اَقْلَعُ بَیْتٌ جَا تَلَتْ اَقْبَلُ مِنْهُ
كَمَا اَوْسَى اَقْبَلُوا مِنْهُ كَمَا اَوْسَى اَقْبَلْتُ اَكِیْ اَنْیْ وَهْ اَقْبَلْنَا اَنْیْ بَیْتٌ اَقْبَلُ اَكِیْ
تَوَا اَقْضَى اَخْرَجْتُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ تَوَا اَقْرَبُ وَاَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ
كِی رَاہِ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ
كَمْ كَمْ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ
اَقْتَمُّ جَوَادُ اَقْتَمُّ قَمْتُوا كَمَا یَتَمُّ لَمْ

فصل الالف مع الكاف

اَكُوْنُ بَرِيْنٌ اَكُوْنُ اَكُوْنُ اَكُوْنُ اَكُوْنُ اَكُوْنُ اَكُوْنُ اَكُوْنُ اَكُوْنُ اَكُوْنُ
بَیْتٌ كَمَا قَلْعٌ اَكْبَرُ بَیْتٌ اَكْبَرُ اَكْبَرُ اَكْبَرُ اَكْبَرُ اَكْبَرُ اَكْبَرُ اَكْبَرُ
اَكْتَانُ جَیْسِیْ كَمْ اَكْتَانُ اَكْتَانُ اَكْتَانُ اَكْتَانُ اَكْتَانُ اَكْتَانُ اَكْتَانُ
اَكْرَبْتُ زَبْرَدَسْتِیْ كِی تَوْنِ اَكْرَبُ زَبْرَدَسْتِیْ كِی اَكْرَبُ اَكْرَبُ اَكْرَبُ
اَوْنَهُنَّ لَمْ اَكْتَسَبْتُ كَمَا یَا اَوْسَى اَكْتَسَبْتُ كَمَا یَا اَوْسَى اَكْتَسَبْتُ
اَكْفَلُ حَالِیْ كَرِهْتُمْ اَكْفَلُ اَكْفَلُ اَكْفَلُ اَكْفَلُ اَكْفَلُ اَكْفَلُ اَكْفَلُ
اَكْفَرُ نَاكْرِبُ كِی اَوْسَى اَكْفَرُ نَاكْرِبُ كِی اَكْفَرُ نَاكْرِبُ كِی اَكْفَرُ نَاكْرِبُ
مَكْرِبُ اَكْفَرُ جَوْرُونَ كَامِیْنَ اَكْفَلُ اَكْفَلُ اَكْفَلُ اَكْفَلُ اَكْفَلُ اَكْفَلُ
كَمَا یَا اَوْنَهُنَّ لَمْ اَكْفَلُوا كَمَا یَا اَوْسَى اَكْفَلُوا كَمَا یَا اَوْسَى اَكْفَلُوا
بَیْنُ اَكْتَبُ كَبْهٌ تَوَا اَكْتَبُوا كَبْهُتُمْ اَكْتَبُ كَبْهٌ اَكْتَبُ كَبْهٌ اَكْتَبُ كَبْهٌ

اك

عزت دی اوسنی اگر مٹی درست کر توڑے (الکرم بڑا عزت والا اکلم بات کرونگی
میں آکا و قریب ہوں میں آکینڈ تدبیر کروں گا میں الکمام خلاف سب الکواب
آبجوز سے اکتشف کہوں تو اکتا لوانا بیا او ہونے ۛ

فصل الالف مع اللام

ال

اللف نام ہے معبود برحق کا جامع ہے تمام صفات کمال کو اور پاک جمیع سمات
نقصان سے اللہم یا اللہ اللہ معبود الہین دو معبود الہے کہیں میں ڈالا او
اللہم دلین ڈالا اوسنی القی ڈالا اوسنی القوا ڈالا او ہونے اکتفت ڈالا یا
اوسنی (ش) اکتفت ڈالا میں القینا ڈالا میں القی ڈالا گیا وہ اکتفت ڈالا
میں اکتفت ڈالا تو اکتفت ڈالا و اکتفت ڈالا و اکتفت ڈالا یا او ہونے
اکتفت ڈالا و اکتفت ڈالا یا میں اکتفت ڈالا و اکتفت ڈالا و اکتفت ڈالا
الآن اب الباب حل ہے اللہ بڑا جگر نے والا اللہ جنٹے میں۔
اکتفت ملا و اکتفت ملا و اکتفت ملاقات کی متنی اتحاد حق سی گذرنا اللہم
لازم کیا اوسنی اکتفت لازم کیا میں اکتفت اوٹھایا اوسنی اکتفت زبان سب
اکتفت لازم کیا میں اکتفت محبت ڈالی اوسنی اکتفت الفت ڈالی تو نے اکتفت
پٹ گئے وہ اکتفت پٹے ہوئے اکتفت تقریبا اوسنے اور محل گیا وہ اکتفت
ما موق اکتفت ڈھونڈ ہو تم اکتفت در و الا اکتفت ایک بک کر تم اکتفت
پہینا اور جگر نا اکتفت نعمت کر تو اکتفت ملا یا تم نے اکتفت ملا یا میں اکتفت
ملا تو اکتفت بنگ سب اکتفت گنہا یا میں اکتفت تحت سب اکتفت ایسین
یہہ دو نو نام ایک پیپر کے ہیں جیسے سینا اور سینین اور ان ویندار سے
اور قرابت اور نام اللہ کا ہے ان حرف تعریف کا کئی معنون کے ہوا ہے
آتا ہے فن زائد ہوتا ہے اور غیر زائد اور غیر زائد نہیں قسم ہے ۛ

استخراقی عہد خارجی عہد ذہنی بیان سب کا مفصل کتب خود میں ہے
 الذین وہ ایک شخص الذان وہ دو الذین وہ سب الے وہ ایک
 (ث) اللاتی وہ سب (ث) اللابی وہ سب عورتیں اور مرد الے
 طرف الا مگر الآخر دار ہو تو الا کیوں نہیں آلم معنی انا اللد علم یعنی میں
 خدا جاننے والا براہون المص معنی انا اللد اعلم واقصیل یعنی میں خدا ہوں
 جانتا ہوں اور تفصیل کرتا ہوں آلم معنی انا اللد الرحمن یعنی میں خدا ہوں
 ہوں الم معنی انا اللد اعلم ار سے یعنی میں خدا ہوں جانتا ہوں اور
 دیکھتا ہوں یہ حروف تشابہات سے ہیں معنی تحقیقے انکے اللد ہی معلوم
 ہیں یہ معنی تا دلی ہیں باقی بیان سب کا کتب تفاسیر میں ہی من شار فلینظر ثمتہ

فصل الالف مع المیم

امر کام اور فرمانا امر فرمایا اوسنی امر وافرمایا اوہوں نے امرت حکم
 تو نے امرت فرمایا میں امر و حکم کئے گئے وہ امرت حکم کیا گیا میں امرنا
 حکم کئے گئے ہم امور کام سب امازہ برا حکم کرنیو الامس الزکھا امر بہت
 کڑوا امر مرد امر زہ عورت امر تمان دو عورتیں اموات مردی اموت
 مردوں کا میں امات مارا اوسنی امت مارا تو نے امیت مارتا ہوں میں امر
 مان اور جگہ اٹھات مائین امی ان پڑنا امیون ان بڑے امینیہ مرد
 امانی آرزو میں امتنی آرزو میں ڈالوں گا میں ائمہ جماعت اعم جہتین
 امہ باندی امانا باندیان امام اگے امام پیشوا اور راہ اند فرق او
 مدت امس کل امنہ چین اور آرام امین معتبر اور امانت دار امن پناہ امن
 اعتبار کیا اوسنی امنم غا ط جمع ہونے تم امنست اعتبار کیا میں امنمہ سب
 امشع فائدہ دونگا میں امل آرزو اموال دولتیں اور نعمتیں امساک روکنا

اَسْتَك روكا اوسى اَسْتَكُن روكا او نهون نے (ج ث) اَسْتَكْتُم موند کر کہا
تنے اَسْتَك روك تو اَسْتَكُو روك ركهو تم امانتہ دہر دہر امانات دہر دہر بن
اَمَلِك اختيار رکھتا ہوں میں اَمَثَلُ بہتر اَمَثَالِ مثالین اَسْحُو اسح کر دیا
چلے جاؤ تم اَمْنُن احسان رکھہ تو اَمْطَرْنَا برسا یا ہم نے اَمْطَرْتُ برسا لگی وہ
اَمْطَرُ برسا وہی تو اَمْلَاقِ مفلسی اَمْلًا بہرون گامین اَمْلے دیر کی اوسى اَمْلِيَّتُ
دُہیل دی مینی اَمْلِي فزست دون گامین اَمْلِيَّتُ بہر چکے تو اَمْلُنُ قدرت
والا اَمْدُدْ دکی اوسى اَمْدُوْنَا زور دیا ہم نے اَمْكُثُوَا بُہر دہم اَمْتَارُوَا اَمْكُ بُوجا تم
اَمْتٌ نیلا اَمْعَارُ اَمْتِيْنِ اَمْتَحْنُ جابجا اوسى اَمْتَحْنُوَا آزماؤ تم اَمْتُوَا
چلو تم اَمْتِجْلُ جملے ہوئے اَمْتَحْلُ مہلت دے تو اَمَّا اے حرف تکفیل
ہے اَمَّا اَمْ یا حرف عطف ہیں بر دید کے لئے ۛ

فصل الالف مع النون

اَلْعَامُ مواسی چار پائے اَلْعَمُّ احسان سب اَلْعَدْرُتُ سیلے ہو جاوین اَلْعَمُّ
احسان کیا اوسى اَلْعَمْتُ احسان کیا تو نے اَلْعَمْتُ اَلْعَمُّ کیا مینے اَلْعَمْنَا
مہربانی کی ہنے اَنْزَلَ اوتارا اوسى اَنْزَلْتُ اوتارا تو نے اَنْزَلْتُمُوَا اوتارا تم نے
اَنْزَلْتُ اوتارا مینے اَنْزَلْنَا اوتارا ہنے اَنْزَلَ اوتارا گیا وہ اَنْزَلْتُ اوتارا
گئے وہ اَنْزَلَ اوتارا دن گامین اَنْزَلَ اوتارا تو اَنْبَاٌ خبرین اَنْبَاٌ پینیب
اَنْبَاٌ بتایا اوسى اَنْبِيٌّ بتا تو اَنْبِيُوَا بتاؤ تم اَنْبِيٌّ خبر دون گامین اَنْفَجْرُتُ
بہے وہ (ث) اَنْجَبْتُ پھوٹ نکلے وہ اَنْسُ اِنْسَانٌ اَنْاسٌ اِنْسِيٌّ
اَوْمى اَنْاسِيٌّ اَوْمِيون اَنْسے بہلایا اوسى اَنْسُوَا بہلایا او نهون نے
اَنْظُرُ دیکھہ تو اَنْظُرُوَا دیکھو تم اَنْظُرِيٌّ دیکھہ تو (ث) اَنْظُرُ فتنظرہ تو اَنْظُرُوَا
دیکھتے رہو تم اَنْظُرُ مہلت دے تو اَنْذَرُ ڈر دیا اوسى اَنْذَرْتُ ڈر ایا مین نی

ناک اَنَامُ مَلِكٌ اَلْقُدُّوْا مَلِكُوْمَ اَلنَّشْرِ بِهَادِهِ اَلنَّشْرُ بِهَتْ كُنِي وَر اَلنَّظْرُ
 چرگے وہ ش : اَنَشْرَتْ جِرگے وہ ش اَنَصَتْوَا جِر ہوم اَنہار زبدا
 اَنہار بانی اور خون بہانا اَنَحْرُ قِرْبَانِ کَرْتُو اَلنَّفْسُ جَانِ سَبِ اَنْدَاوُ سَابِہِ
 سَبِ اَلنَّصَابِ بِت سَبِ اَلنَّصَبِ مَحْتِ اَدْبَاتُو اَنَحْبِلِ کِتَابِ اَسْمَاعِ
 کا نام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اِن اِن اور اَن مقررہ حروف
 حروف مشبہ بالفعل سے ہین اَن یہ ناصبہ مضارع ہے اِن جو حرف شرط
 سے : اِن ہین نافیہ اَنے کہاں استفہام کے لئے آتا ہے اَنت لیکے
 اَنْتَا تم دونو اَنْتُمْ تم سب مرد اَنْتِ تو ایک عورت اَنَامِین :

۱۰

فصل الالف مع الواو

اَوْنِي جہا پورا اور پورا کیا اوسنی اَوْنِ پورا کر دن گامین اَوْنِ پورا کر
 تو اَوْنُوْا پورا کر دم اَوَّلِ پہلا اَوَّلِيَانِ دو پہلے اَوَّلُوْنَ پہلے سب
 اَوَّلِ لے بہتر اور مصیبت اَوَّلِ لے پہلے اَوَّلِے دیا گیا وہ اَوُّوْا دی گئے وہ
 اَوْتِيَتْ دہی گئے وہ اَوْتِيْتُمْ دہی گئے تم اَوْتِيَتْ دیا گیا میں اَوْتِيْنَا
 دینے گئے ہم اَوْتِيْنَا دیا جاؤں گامین اَوُوِيْے ستا یا گیا وہ اَوُوُوْا ستا
 گئے وہ اَوُوِيْنَا ستائے گئے ہم اَوُوُوْا بچے اَوُوُوْا دمیخین اَوُوُوْا دمی کے
 اور دلمین ڈالا اوسنی اَوُوُوِيَتْ دمی بھی مینے اَوُوُوِيْنَا دمی بھی مینے اَوُوُوْا
 دمی بھی گئے اَوُوُوِيْنَا جہا تا ہوں میں اَوُوُوُوْا روشن کیا اوسنی اَوُوُوُوْا
 سگایا اور ہوں نے اَوُوُوُوْا روشن کر تو اَوُوُوُوْا وارث کیا اوسنی اَوُوُوُوْا
 وارث کیا مینے اَوُوُوُوْا وارث کے گئے وہ اَوُوُوُوْا وارث کے گئے تم
 اَوُوُوُوْا گہڑے دوڑائے اذہنوں نے اَوُوُوُوْا دلمین ڈالا اوسنی اَوُوُوُوْا
 داخل کیا اوسنی اَوُوُوُوْا نالی اَوُوُوُوْا بوجھے اَوُوُوُوْا بیرون اَوُوُوُوْا بڑا بچہ

کرنیوالا طرف اللہ کے اولاد میں رجوع کر نیوالے اقرباں جمع کرنا اور
 آہ کرنیوالا اور نرم دل اوستے تاکید کی اور بعد مرنے کے دلایا اوشان بت
 سب اوشان بہت بودا اوشانم دوڑا یا تنے اولیا اور دست سب اوسط
 بیچ والا اوستے نگاہ رکھی اوستی اوشانم خوجیان اوزع نصیب کرتا ویسا
 حرف عطف ہے اولوا صاحب جمع ذہ کی ہے مذکر کے واسطے اولات
 صانجات یہ جمع ذات مؤنث کے لئے اولاء اولیک وہ لوگ
 ہمارا اشارات ہیں جمع مذکر اور مؤنث کے لئے

فصل الالف مع الہاء

۱۵

اُہدیٰ راہ بتاؤن گامین اُہدِ راہ بتاؤ اُہدِ و اراہ بتاؤ تم اُہدے
 بہت راہ پانے والا اُہتدے راہ پانی اوستی اُہتد و اراہ پانی اوہون نے
 اُہتدیم ہم راہ پانی ستے اُہتدیت راہ پانی میں سے اہلہ چاند سب اہل
 بکار گیا وہ اور فرج کیا گیا وہ اہل اولاد اور دست اہلون گہروالے
 اُہتوار خواہشیں اُہومی بھکا اور گرایا اوستی اہلک فارت کیا اوستے
 اُہلکت نابد کیا اوستے (ش) اُہلکت ہاک کیا تو نے اُہلکت ہاک کیا
 میں نے اُہلکن ہاک کیا میں نے اُہلکو فارت کے گئے وہ اُہتت ارادہ کروایا اوستے
 (ش) اُہیط اتر تو اُہیطا اتر تم دونوں اُہیطوا اتر تم اُہیڑ چوڑا اُہیڑوا
 چوڑو تم امان ذلیل کیا اوستی اہب دین اہشس پتے جہارتا ہون میں
 اُہتتت اُہری ہوئے اُہون بہت آسان :

فصل الالف مع الیاء

۱۶

اُیوتب نام پیغمبر کا ہے بنے اسرائیل سے علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
 ایاب پہرنا ایلاف الفت دینی ایقاظ جاگنے والے آیاتے بیوہ عورتیں

ایمن طرف ایمان دہنی ملت اور زمین ایمان یاد کرنا اور مسلمان ہونا
 آیام دن سب ایک طاقت ایذی ہا سب آیت زور دیا اوسنی آیت زور
 میں آیت زور دیا ہنے ایک نام جبل کا ہے ایثار وینا امی البتہ حرف ایجاب
 امی اور آیت کون اور کون اور کجگہ استغنام کے واسطے ہیں اور آیت اور
 آیتان بھی سطر ح واسطے استغنام کے ہیں اور آیتان شرط کے معنی میں
 آتا ہے ایاک تجھ کو آتا کما تم دونوں کو آتا کم تم سب کو آتا می مجھ کو
 آیتان کو آتا ہ اسکو آیتان ہا اور دونوں کو آیتان ہم اور سب کو یہ
 سب ضمیر من منصوب منفصل ہیں

باب الباء (ب) ساتھ یہ حرف جو ہے کے معنوں کے لئے آتا ہے

فصل الباء مع الالف

بارمی پیدا کرنیوالا شے سے نام ہے اللہ سبحانہ کا خود نہ نام سے بارمی
 ظاہر اور باہر کار ہنے والا باروں کہلے اور جبل میں رہنے والے باق ہمیشہ
 رہنے والا باقون بچے ہوئے باقیہ بچے رہنے والے باقیات بچے رہنے
 اور بچے ہوئیں باربن نام شہر کا ہے نزدیک کونے کے بار کما یا اوسنے
 باروا کما یا اوبہون نے بارس خوف اور لطانی اور عذاب بارسار سختے بار
 کشی کرنیوالا باطل ناحق اور ناچیز باعد دور می اللہ می تو بلس برا بارشروا
 نزدیک کر وتم بالبع پہنچے اور پہنچا نیوالا بالبعون پہنچنے والے اور پوری بالبع
 پہنچنے والے اور پورے بارک برکت دی اوسنی بار کتا برکت دی ہنے
 بالبع بچنے والا بالبع ہا تہ ملا تو یعنی توبہ کر بالبعیم بیچا تملے باب دروازہ
 بالبع حال باجمع کہوشنے والا اور اپنے تین ہاک کرنیوالا بارس برمی حال
 بارس سجت اور بند بار دہندا بار زہ کہلے بار زون کہلے اور ظاہر ہونیا

ب

با

بأسرة اود اس اور سبت باسقات اود بفتح الج ابا طرن جہا ہوا باطنہ چہ
ہوئے باز فتح جہکنے والا باز فتح جہکنے والی باسطر ہیلانیو الا باسطون کہولنے والے

فصل الباء مع الباء والباء خالی

فصل الباء مع التاء ببت بکبیر اوسنے ببت احوال :

ب ب ت

ب ب ت

فصل الباء مع الجیم ب خالے ب فصل الباء مع الحاء

ب ج ب ح

بخر دریا بحرین دودریا اور نام جگہ کا ہے بحار بہت یا بحر تہا کی نیاز کا جا

فصل الباء مع الخاء

ب خ

بخل بخیل کرنے بخیل بخیل کے اوسنی بخیلو بخیل کی اویہون نے بخس کہونا

فصل الباء مع الدال

ب د

بدل نام کوہ کا ہے کہ اوجگہ انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے اور شکر کفار سے
لڑائی ہوئی تھی مختصر قصہ اسکا پہ ہے کہ ہجرت کے ایک برس چہہ مینے کے
دہان لڑائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو فتح دی مسلمانوں کو خوشی ہوئی شتر
کافر فی النار ہوئی اور شتر پکڑے آئے باقی قصہ کتب احادیث میں مفصل ہے
بدل گہرا نا بدل عوض بدل کیا اوسنی بدلو بدل کیا اویہون نے
بدلنا بدلا مینے بدل بدل دی تو بدیع نیا بدیع نیا بنامیو الا بد شروع کیا
اوسنی بدو شروع کیا اویہون نے بدت ظاہر ہوئے بدنا شروع
کیا مینے بدو گانو بدن تن بدن قربانے کا اونٹ :

فصل الباء مع الراء ب خالے ب فصل الباء مع الراء ب

ب ذ ب ر

بیر نیکی بیک اور جیک برارة فار عظمی برمی بیزار ہونیو الا برمیون
بیزار ہونیو الا برمیون ہونے والا برمیون بیزار ہونے والے برمیون

بَرْکَاتُ بَرکَتَینِ بَرّو پاک کیا اوسنی بَرْق بجلی بَرْق چنڈ پلائے
 بَرّو اولے بَرّو ڈھنڈا بَرّو ہان گواہ اور سند بَرّو ہانان دو سندین بَرّو زح
 پردہ بَرّو قج تارونکی گہر بَرّو کلاوہ بَرّو زوا کلاوہ بَرّو زت کالی گئی وہ بَرّو زتیک لوگ

بز بس

فصل الباء مع الزاء ۛ خالے ۛ فصل الباء مع السين ۛ
 بساط بھونا بسط کسادگی بسط کثا لیش بسط کثا وہ کیا اوسنے
 بسط پہیلا یا توئے بس کرڑا کیا اوسنی بس توڑنا بسٹ مگر کئی

بش

فصل الباء مع الشین
 بشری خوشخبری بشر خوشخبری سنانی بشر خوشخبری سنانی والا بشر
 خوشی سنانی ادھون نے بشر کتو خوشی سنانی تنے بشر نا خوشی سنانے
 ہننے بشر خوشی سنانا گیا وہ بشر خوشی سنادے تو بشر اوسے
 بشرین دو اوسے مرہوئے و مارون علیہما السلام

بص

فصل الباء مع الصاد
 بصر آنکہ بصیر دیکھنے والا نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بصیرۃ دیکھنے
 والے اور بینا کے بصائر دلیلین بصرت دیکھا اوسنی بصرت دیکھا میں بصل پیاز

بصن

فصل الباء مع الصاد
 بضع گنتے میں تین سے نو تک کو کہتے ہیں بصناعۃ پونجے ۛ ۛ

بط

فصل الباء مع الطار
 بطل نا چیز موادہ بطن پیٹ بطن پیٹ بطن پیٹ سب بطانۃ بھیدی اور
 دل محبت بطن پوشیدہ موادہ بطان ستر بطن اتراتا بطن
 اترائے وہ بطن پکڑنا بطن پکڑ بطن پکڑا تنے ۛ
 فصل الباء مع الطار ۛ خالے ۛ فصل الباء مع المعین

بب

بَعْدُ بِحَيْبِ بَعْدُ دُورِي بَعِيدٌ دُورٌ بَعْدَتْ دُورٌ مَوْنٌ وَهُوَ لَبِصٌ تَهْرًا
لَبِصَةٌ مِثْرٌ لَبِثٌ اَوْثَانٌ اَوْ سَنَةٌ لَبِثْنَا اَوْثَانًا بِمَنْ لَبِثْنَا اَوْثَانًا اَوْ سَنَةً
لَبِثْنَا اَوْثَانًا كَمَا وَه لَبِثْنَا اَوْثَانًا لَبِثْنَا اَوْثَانًا لَبِثْنَا اَوْثَانًا لَبِثْنَا اَوْثَانًا

فصل البار مع الخين

بَعْنِي صَدٌّ اَوْ سَرَكَشِي بَعْنِي سَرَكَشِي بَعْنًا اَوْ بَدَّكَارِي اَوْ رَزَانَا بَعْنِي صَدٌّ اَوْ سَرَكَشِي
بَعْنًا اَوْ مِثْرٌ مِثْرًا اَوْ نَهْوِي بَعْنَتٌ سَرَكَشِي كَمَا اَوْ سَنَةٌ (رث) بَعْنِي ظَلَمٌ كَمَا اَوْ
بَعْنًا رَدَّ شَمْنٌ بَعْنَةٌ اِجَانِكٌ بَعْنًا مِثْرًا مِثْرًا

فصل البار مع الفار : خالے : فصل البار مع القاف
بَعْنِي بَعْنًا اَوْ مِثْرًا بَعْنِي بَعْنًا اَوْ مِثْرًا بَعْنِي بَعْنًا اَوْ مِثْرًا بَعْنِي بَعْنًا اَوْ مِثْرًا

فصل البار مع الكاف

بَكْرٌ كُنُوْرِي اَوْ سِرٌّ كَهْبِي بُوْهَانٌ پُرَا اَوْ بَكْرَةٌ صَبْحٌ بَكْتَةٌ نَامٌ هُوَ كَمَا
بَكْتٌ رُوْنٌ وَهُوَ بَكْتٌ رُوْنٌ وَهُوَ بَكْتٌ رُوْنٌ وَهُوَ بَكْتٌ رُوْنٌ وَهُوَ بَكْتٌ رُوْنٌ

فصل البار مع اللام

بَلَاغٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ
بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ
بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ بَلْعٌ بَهْنَانٌ

فصل البار مع الميم : خالے : فصل البار مع النون
بَنَاءٌ اَوْ عِمَارَةٌ بَنَاءٌ اَوْ عِمَارَةٌ بَنَاءٌ اَوْ عِمَارَةٌ بَنَاءٌ اَوْ عِمَارَةٌ بَنَاءٌ اَوْ عِمَارَةٌ
بَنَاءٌ اَوْ عِمَارَةٌ بَنَاءٌ اَوْ عِمَارَةٌ بَنَاءٌ اَوْ عِمَارَةٌ بَنَاءٌ اَوْ عِمَارَةٌ بَنَاءٌ اَوْ عِمَارَةٌ

فصل البار مع الواو

بغ

بف

بک

بل

بم

بو

تو اسی جگہ ہی اوسنی بو اُٹا تا ہکا نادیا مہنے بو زک برکت دیا گیا وہ بو ز
 دشمنی اور ہلاکی بو اور تباہی ۛ ۛ فصل البار مع الحار ۛ ۛ
 بہتان جوٹ بہیمتہ موشی بہت گہرا یا گیا وہ بہجتہ رونق بہیج

بہ

بی

فصل البار مع الیاء

بین بیچ بین کیلئے عینہ دلیل اور گواہ بیات دلیلین بیٹوا بیان کیا اوہون نے
 بیٹنا بیان کیا مہنے بیٹ رات کو مشورہ کیا اوسنی بیات رات بیٹ
 گہر بیوت گہر سب پیر کنوا بیج بیچا بیج مدرسہ بیٹنا سفید بیض
 سفید چیزیں بیضیں انڈے بیان بات ظاہر کہنے

باب التار ت قسم ہی یہ حرف جر ہے قسم کی معنی سی لفظ پیرا ہے

تا

فصل التار مع الالف

تاب تو بہ کی اوسنی تابا تو بہ کی دونوں نے تا بو اتو کچھ اوہون نے تا بو
 تو بہ کرنیوالے تابیات تو بہ کرنیوالیاں تابے انکار کرتی ہے وہ تارک
 چوڑنے والا تار کو چوڑنے والے تابس ہوس کرتا ہے تو تاسوا
 عم کہا دم تا بو ت صدق تاشیم گناہ میں ڈالنا تاخر دیر کی اوسنی
 اور بیچے چوڑا اوسنی تا مہر حکم کرتی ہے اور حکم کرتا ہے تو تا مرون حکم
 کرتی ہو تم تا مرون حکم کرتی ہے تو تانی آتے ہے تانی آتا ہے تو
 اور لاتا ہے تو تا تون آتی ہو تم ت تابع پیروی کرنیوالا تابعین
 پیروی کرنے والے تامل کہانی ہے وہ تاملون کہاتے ہو تم تاخذ
 پکڑتا ہے تو تاخذون لیتے ہو تم تا فک پھرے تو توڑا جالتے
 ہیں وہ توڑوون اختیار کرتے ہو تم توڑوا حوالہ کر دگے تم تاویل
 پھیرنا اور معنی درست بیان کرنا تا مرن امانت رکھنا تو تاملون بی آرام

تار ت قسم ہی یہ حرف جر ہے قسم کی معنی سی لفظ پیرا ہے
 تا بو اتو کچھ اوہون نے تا بو اتو کچھ اوہون نے تا بو اتو کچھ اوہون نے
 تا بو اتو کچھ اوہون نے تا بو اتو کچھ اوہون نے تا بو اتو کچھ اوہون نے
 تا بو اتو کچھ اوہون نے تا بو اتو کچھ اوہون نے تا بو اتو کچھ اوہون نے

ہو تم تاڈن خبر کردی اوسنی تارۃ ایبار تاچر منو کرمی کر لگا تو تا سرؤن
 قید کرتے ہو تم تالیات پڑھنے والیان : فصل التار مع البار :
 تبد ظاہر کجاوے وہ تبدی ظاہر کرتی ہے تو تبدون ظاہر کرتے
 ہو تم اور کرو گے تم تبع تبع تابع ہوا وہ تبعوا تابع ہوئے وہ
 تبیع دعویٰ کرنے والا تبایعتم خرید فروخت کرتے ہو تم تبع نام
 ایک بادشاہ میں کا تبیون بناتی ہو تم تبو آزما دیگی وہ تبیلے جانچی
 جانیں گے وہ تبون آزمائی جاؤ گے تم تبیان کہلے دلیل تبین
 ظاہر ہوا وہ تبینت جان لے تبینوا دریافت کرو تم تبین بیان کرتا
 ہے تو تبینوا بیان کرو گے تم تبیر الگ ہوا وہ تبیروا بیزار ہوئی وہ
 تبیرنا بیزار ہوئے ہم تبیل سونا جادی تو تبیشروا مباشرت
 کرتے ہو تم تبیعے جانتا ہے تو تبیعون چاہتے ہو تم تبیح چاہتا ہے
 تبیحے بغارت کی اوسنی تبیعون چاہتے ہو تم تبیروا بیکے کرتے ہو تم
 تبیرنا بلاک کیا ہے تباب بلاکی تب بلاک ہوا وہ اور ٹونا وہ
 تببت ٹوٹ گئے وہ تبور ٹوٹا تو تبتم توبہ کی سننے تببت
 توبہ کی سننے تب معاف کرو تببت ہو چکا کر دیگی وہ تبو جگہ
 پکڑی اوسنی تبورا جگہ پکڑی اون دونوں نے تبورا جگہ پکڑے
 اونہوں نے تبورا جگہ بتاتا ہے تو تبورا رجوع کرتا ہے تو تبورا
 چنگا کرتا ہے تو تبجسوا کہناں ہو تم تبصرہ سمجھانے کے چیز تبصر
 دیکھے گا تو تبصرون دیکھتے ہو تم تبدل بدلے تو تبدل بدلنا
 تبدل بدلے جانے کے وہ تبسم مسکرا یا وہ تبیق سفید ہوا
 تبیل چوٹنا تبیل جوٹ تو تبذیر نکمیرنا تبذیر بگمیرتا ہے تو

تَبْطِطُ كَهْوَتَا هَيْ تَو تَبْلَعُ بُوغِيكَ تَو تَبْلَعُوَانِي هَيْ هَوْتَم
 بِنِجَادِي گَا تَو تَبِيدُ خَرَابِ هَوِي وَه تَبِيدُ خَرَابِ سَاوَرِ كَلَا
 تَبْشِيرُونَ خُوشِ سَنَاوْگِ تَم تَبَارِ بِلَاكِي تَبْجِي بَاقِي رَكِيكِي دِه شَبَاكِي
 بَرَكْتِ دَالَا هَيْ وَه تَبْعَشُونَ كَهْرِي كَعُ جَاوْگِ تَم تَبْشَرُجْ دَكِهْلَانَا
 تَبْجَرْنَ دَكِهَاتِي هِينِ وَه تَبْطَلُوا نَا جِيزِ كَرْتِي هَوْتَم تَبْخَلُوا بَحِيلِي كَرْتِي
 هَوْتَم تَبْتَقِيسْ عَمَلِينِ هَوْتَا هَيْ تَو تَبْكُونُ رَوْتِي هَوْتَم

ت ت

فصل التار مع التار

تَبْشِيرِ بِلَاكِ كَرْنَا تَبْيَبِ غَارْتِ كَرْنِي اَوْر تُوْرْنَا تَقْرُقُوَا هُوْطِ ذَلِي
 هَوْتَم تَبْجُوَا تَوْبِي كَرْتِي هَوْتَم دُونِ تَبْكَرْ سَرَشِي كَرِي گَا تَو تَبْجَا فِي الْك
 هُو جَاتِي هَيْ وَه تَبْمَا رَهْ جِهْلَانَا هَيْ تَو تَبْوَلُوا دَوَسْتِي كَرُوْگِ تَم اَوْر هِيَه
 بِيِرُوْگِ تَم تَبْسَا خَوَا كَانِ مِيْنِ بَاتِ كَهْوْتَم تَوْنِي مَارْتِي مِيْنِ وَه تَبْمَرَلْ
 اَوْر تِي مِيْنِ وَه تَبْمُذْكَرُونَ نَصِيحْتِ بَرُ بِيَهْ هَوْتَم تَبْمُجُ بِيَهْ اَوْر هَيْ وَه
 تَبْمُجُ تَابِجِ هُوْگَا تَو تَبْمُعَانِ بِيِرُوِي كَرُوْگِ تَم دُونِ تَبْمُعُونَ بِيَهِي
 چَلِي هَوْتَم تَبْمُو بَرْمَتَا هَيْ تَو تَبْمُونُ بَرْمَتِي هَوْتَم تَبْمُو بَرْمَتِي چَلِي
 هَيْ وَه تَبْمُفَرُونَ دِهِيَانِ كَرْتِي هَوْتَم تَبْمُو بَدَلِ كَرُوْگِ تَم تَبْمُفَرْ
 چُوْرِي گَا تَو تَبْمُفَرُونَ چُوْرِي جَاوْگِ تَم تَبْمُفَرُونَ بَجُوْگِ اَوْر تَبْمُفَرْ
 تَبْمُفَرُونَ اَوْر زُوْگَرْتِي هَوْتَم ف تَبْمُفَرِي بِيَهْ دَرِ پِي تَبْمُفَرْتَا هَيْ تَو
 تَبْمُفَرُونَ بَرْمَتِي هَوْتَم تَبْمُفَرِي لِي اَوْر گِي وَه تَبْمُفَرْتَا اَوْلِي گِي وَه

ف و لا تَبْمُفَرُونَ اَوْر تَبْمُفَرُونَ

فصل التار مع التار

تَبْشِيرِ اَوْبِهَارْتِي هِي وَه تَبْمُنِيْتِ نَابْتِ كَرْنَا تَبْمُفَرِ الزَامِ تَبْمُفَرْتَا اَوْر بِيَهِي

فصل التار مع ابحيم

ت ت

ت ت

تَبْطِطُ كَهْوَاتَا هَيْ تَو تَبْلُغُ بِهَوْنِكَا تَو تَبْلُغُوا بِهَيْتِهْ هَوْتَم تَبْلُغُ
 بِهِنَا وَهِي كَا تَو تَبْلُغُ خَرَاب هَوِي وَه تَبْلُغُ خَوْشِي سَنَا وَه سَا تَو
 تَبْلُغُونَ خَوْشِي سَنَا وَه كَم تَبْرَا هَلَاكِي تَبْلُغُ بَاتِي رَكْمِي وَه تَبْرَا ك
 بَرَكْتِ وَه وَه تَبْعَثُونَ كَهْرِي كَم جَا وَه كَم تَبْرَا خَوْشِي وَه كَهْلَانَا
 تَبْرَجِنَ دَهْلَانِي مِين وَه تَبْطِطُوا نَا جِزِي كَرْتِي هَوْتَم تَبْلُغُوا بِهَيْلِي كَرْتِي
 هَوْتَم تَبْتَبْسُ عَمَلِين هَوْتَا هَيْ تَو تَبْلُغُونَ رَوْتِي هَوْتَم

ت ت

فصل التار مع التار

تَبْرِي هَلَاكِي كَرْنَا تَبْلُغُ غَارْتِ كَرْتِي اَوْر تَوْرْنَا تَقْرُقُوا بِهَوْتَم دَهْلِي
 هَوْتَم تَبْرَا تَوْبِي كَرْتِي هَوْتَم دَوْنُو تَبْرَا كَرْتِي كَرْتِي كَرْتِي كَرْتِي كَرْتِي كَرْتِي
 هَو جَاتِي هَيْ وَه تَبْرَا كَرْتِي هَلَا تَا هَيْ تَو تَبْرَا دَوْسِي كَرْتِي كَرْتِي كَرْتِي
 بِهِي رَو كَم تَبْرَا خَوَا كَان مِين بَاتِي كَرْتِي تَوْنِي مَارْتِي مِين وَه تَبْرَا
 اَوْر تَرْتِي مِين وَه تَبْرَا كَرْتِي نَصِيحْتِ بِرَبْتِي هَوْتَم تَبْلُغُ بِهَيْ اَوْر وَه
 تَبْلُغُ تَابِي هَو كَا تَو تَبْلُغُ بِهِي رَوِي كَرْتِي كَرْتِي دَوْنُو تَبْلُغُونَ بِهِي
 چَلْتِي هَوْتَم تَبْرَا بِرَبْتَا هَيْ تَو تَبْرَا كَرْتِي بِرَبْتِي هَوْتَم تَبْرَا بِرَبْتِي جَانِي
 هَيْ وَه تَبْرَا كَرْتِي دَهْلَانِي كَرْتِي هَوْتَم تَبْرَا لَوَا بَدَلِي كَرْتِي كَرْتِي
 چَوْرِي كَا تَو تَبْرَا كَرْتِي چَوْرِي جَا وَه كَم تَبْرَا كَرْتِي بِجَو كَم اَوْر وَه كَم
 تَبْرَا اَوْر وَه كَرْتِي هَوْتَم تَبْرَا تَبْرَا پِي دَرِي تَبْرَا كَرْتَا هَيْ تَو
 تَبْرَا كَرْتِي هَوْتَم تَبْرَا لِي اَوْر وَه تَبْرَا اَوْر وَه

فصل التار مع التار

فصل التار مع التار

تَبْرِي اَوْبَهَارْتِي هِي وَه تَبْرَا نَابْتِ كَرْتَا تَبْرَا اَلَام تَبْرَا تَبْرَا

ت ت

فصل التار مع التار

ت ت

تَجَلُّلٌ بِئِرَاتِهِ تَوْجَعَلُونَ بِئِرَاتِ هَوْتُمْ تَجْرِي بَيْتِهِ سَهْ وَه
 تَجْرِيَانِ بَيْتِهِ مِينَ دُونِ تَجَارَةٍ مِوِبَارِ تَجْرِي كَامِ أَدِيكِي وَه تَجْرِي
 بَدَلَا دِيَا جَارِيكَا تَوْ تَجْرُونَ بَدَلَا دِي جَاؤْ كَيْ تَمِ تَجَارُونَ جَلَا تَيْ هَوْتُمْ
 تَجْدُ بَادِيكَا تَوْ تَجْدُونَ بَاؤْ كَيْ تَمِ تَجْدُ بَادِيكِي وَه تَجَادِلُ جَلْ تَاؤْ
 تَجَادِلُونَ جَابَزَيْ هَوْتُمْ تَجْمَعُونَ جَمْعُ كَرْدْ كَيْ تَمِ تَجُوعُ هَو كَمَا هَو كَا تَوْ تَجْتَبُونَ
 جَوْ كَيْ تَمِ تَجْهَرُ بَكَرَاتِهِ تَوْ تَجْهَرُ وَا يَكَارَتَيْ هَوْتُمْ تَجْهَلُونَ جَهَالَتِ
 كَرْتَيْ هَوْتُمْ تَجْرَمُونَ كِنَاهُ كَرْتَيْ هَوْتُمْ تَجَلُّ تَجَلُّ طَاهِرُ مَوَادِهِ تَجَسُّوْا
 تَلَّاشُ كَرْتَيْ هَوْتُمْ تَجَادِدُونَ جَاهِدُ كَرْتَيْ هَوْتُمْ

فصل التار مع الحار

تج

تَحْتَ نِجْمِ تَجْتَبُونَ دَوَسْتُ رَكْبَتَيْ هَوْتُمْ تَجَاؤُونَ جَهْرَتَيْ هَوْتُمْ
 تَحْتَلُّوْا حَامَتُ كَرْتَيْ هَوْتُمْ تَحْتَشُرُونَ جَمْعُ كَيْ جَاؤْ كَيْ تَمِ تَحْتَلُّ حَالُ هَوْتُمْ
 سَهْ وَه تَحْتَلُّوْا حَالُ سَجْتَيْ هَوْتُمْ تَحْتَمِلُ ذَا لَيْ تَوْ تَحْتَمِلُ اِدْهَانِي هِي ه
 تَحْتَمَلُونَ لَادَسَ جَابَزَيْ هَوْتُمْ تَحْتَمِلُ اِدْهَانِي هِي ه تَوْ تَحْتَمِلُونَ جَوْ كَيْ تَمِ
 تَحْتَمَلُونَ جَلَاتَا هِي تَوْ تَحْتَسِبُ سَبْهَاتَا هِي تَوْ تَحْتَسِبُونَ جَانَتَيْ هَوْتُمْ
 تَحْتَبِطُ نَابِزُ هَوْدَسَ وَه تَحْتَزِنُ عَمُ كَهَاتَا هِي تَوْ تَحْتَزِنُونَ عَمُ كَهَاتَا هِي تَمِ
 تَحْتَزِنُ عَمُ كَهَاتَا تَوْ تَحْتَرُمُ حَرَامُ كَرَاتَا هِي تَوْ تَحْتَرُمُوا حَرَامُ كَرَاتَا هِي تَمِ هَوْتُمْ تَحْتَسُوْا
 دُؤْمُوْهُ هَوْتُمْ تَحْتَسُونَ بَدْرُ كَرْتَيْ هَوْتُمْ تَحْتَذِرُونَ ذَرْتَيْ هَوْتُمْ تَحْتَرُونَ
 بُولَتَيْ هَوْتُمْ تَحْتَصِنُ بَجَانِي سَهْ تَحْتَصِنُونَ رَوَكُ رَكْبَتَيْ هَوْتُمْ تَحْتَصِنُ
 قَبْدَسَ رَهْبَا تَحْرَصُ لِي جَابَزَيْ هَوْتُمْ تَحْوِيلُ بَدَلْنَا تَحْسُ بَاتَا هِي تَوْ
 تَجْتَبُونَ كَامَتَيْ هَوْتُمْ تَجْنُونِي كَرْدْ كَيْ تَمِ تَجْرِكُ بَلَاتَا هِي تَوْ
 تَحْصُوا كِنُوْ كَيْ تَمِ تَحْتِيَهُ دَعَا تَحْرِيْرَا زَادُ كَرْنَا تَحْتِيَهُ اِدْهَانِي تَحْتَرُ

بولے گے وہ تَحْدُوثُونَ بائین کرتے ہوئے تَحَاصُّوْنَ آپس میں تاکید کرتے
 ہوئے تَحْلُمٌ وحکم کریگا تو تَحْكُمُونَ حکم کرتے ہوئے تَحْيِدٌ اوجہلتا ہے تو
 تَحَاوُرٌ سوال اور جواب تَحَدُّوْنَ جلتے ہوئے تَحْتَشُّ قسَم تو ریگا تو تَحْمِرُونَ
 اوجہلت کئے جاؤ گے تم تَحِطٌ گہیرتا ہے تو تَحِطُونَ گہیرتے ہوئے ۛ

فصل التار مع الخار

تَخْرِجُ نکلنے ہے وہ تَخْرُجُ نکالتا ہے تو تَخْرِجُونَ نکالتے ہوئے تَخْرُجُونَ
 نکالی جاؤ گے تم تَخَانَةٌ ڈرتی ہے تو تَخَافُ ڈرتے ہوئے تَخَافُونَ ڈرتے ہوئے
 جہی گی وہ تَخَفٌ جہاتا ہے تو تَخْفُونَ جہاتی ہوئے تَخَافَتُ مہنتہ
 پڑتا ہے تو تَخَافُ ڈرتا ہے تو تَخَافُونَ ڈرتے ہوئے تَخَوَّفٌ ڈرنا
 تَخَوِّفٌ ڈرانا تَخْرِقُ پہاڑیگا تو تَخْرِقُ گریگا تو تَخَطَّفٌ اوجک لیجانی
 ہے وہ تَخَشُّعٌ گڑ گڑاتی ہے وہ تَخَاطَبٌ ملائی ہوئے تَخَوُّوْا خیانت
 کرتے ہوئے ۛ قَالَ اللهُ تَعَالَى ۛ وَلَا تَخَوُّوْا تَحْتَا لُؤُنَ چوری
 کرتے ہوئے تَخَشُّوْا ڈرو گے تم تَخْسِرُونَ کہتاؤ گے تم تَخْفِيفٌ ہلکا کرنا
 تَخْمِيرٌ نقصان دینا تَخْتَشُّ ڈرتا ہے تو تَخَلِّفٌ خلاف کرتا ہے تو
 تَخْتَلِفُونَ اختلاف کرتے ہوئے تَخْرَمِي رسا کرتا ہے تو تَخْرُوْنَ رسا
 کرتی ہوئے تَخْلُقُ بناتا ہے تو تَخْلُقُونَ بناتے ہوئے تَخْرُصُونَ تجویز
 کرتے ہوئے تَخَاطِبٌ بولتا ہے تو تَخْتَبِتُ دبتی ہے وہ تَخَصُّمٌ آپس میں
 جھگڑنا تَخَطُّفٌ کہتا ہے تو تَخْتَضِعْنَ پست کرتے ہیں تَخْتَصِمُونَ جھگرتے ہو
 تم تَخْمِرُونَ پسند کرتے ہوئے تَخَلَّتْ خالی کی تَخَلُّوْنَ ہمیشہ رہو گے تم

فصل التار مع الدال

تَدْخُلُوا داخل ہوتے ہوئے ۛ قَالَ اللهُ تَعَالَى ۛ لَا تَدْخُلُوا مَتَدَخِلٌ ہوئے ۛ

تخ

فصل التار مع الخار

ۛ

تد

تَدْخُلُ دَاخِلُ كَرْتَا هِي تَوْتَدَا يَنْتَمُ اَسْمِين اودمار لیتے دیتے ہو تم تَدْوَرُ پھرتے
 ہے وہ تَدِيرُونَ پھرتے ہو تم تَدْخِرُونَ جمع کرتے ہو تم تَدْكُ لَشْكُ يَا
 تَدْلُوا پہناتے ہو تم ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى تَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ ﴿ تَدْرِي
 جانتا ہے تو تَدْرُونَ جانتے ہو تم تَدْعُو پکارتا ہے تو تَدْعُونَ پکارتے
 ہو تم تَدْعُ بجا رہی وہ ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَإِنْ تَدْعُو مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ اِيَةٍ ﴿
 یعنی آخر آیت تک جو بجا رہے بوجھل ﴿ تَدْعُ بِلَانِي جانیگی وہ تَدْعُونَ
 سگوانی ہو تم تَدَارِكُ سنبھالا سنی تَدْرِكُ پاسکتے ہے وہ تَدْمِيرُ اکھاڑنا
 تَدْمُرُ اکھاڑ گی وہ تَدْمِنُ ڈھیل ہوگا تو تَدْرُسُونَ پھرتے ہو تم ﴿

ت ذ

فصل السابع مع الذال

تَذْكُرُ ياد کر گیا تو تَذْكُرُونَ ياد کرو گے تم تَذْكِرَةٌ نصیحت تَذْكِيرٌ ياد دلانا
 تَذْكِرٌ ياد دلا دیکھے وہ تَذْكُرُونَ نصیحت پکڑو گے تم تَذْجُو اذبح کرو گے تم
 قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْجُوا بَقَرَةً ﴿ تَذْهَبُ جاتی
 ہے وہ تَذْهَبُونَ جاتے ہو تم ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنِّي أَخَافُ أَنْ
 تَذْهَبُوا بِهَا اِيَةٍ ﴿ لیجاتے ہو تم و تَذْرُ چھوڑتی ہے وہ اور چھوڑتا
 ہے تو تَذْرُونَ چھوڑتے ہو تم تَذْرُو اور ڈالتی ہے وہ تَذْوُقُوا
 چکھتے ہو تم ﴿ قَالَ اللهُ تَعَالَى تَذْوُقُوا السُّوءَ اِيَةٍ ﴿ تَذْلِيلٌ
 خراب کرنا اور جھکانا تَذْلِيلٌ ذلت دیتا ہے تو تَذْلِلُ بھول جانیگی وہ
 تَذْوَدَانِ ہانکتی تہین اور روکتی تہین دو عورتیں یعنی حضرت شعیب کی دو بیٹیاں

ت ذ
 ت ذ
 ت ذ

فصل الثامن مع الراء

تَرْكٌ چھوڑنا اور تَرْكُوا چھوڑا اور تَرْكُونَ تَرْكُنُ چھوڑیں تَرْكُمُ
 تَرْكُمُوا چھوڑا متے تَرْكُتُ چھوڑا میں تَرْكُنَا چھوڑا میں تَرْكُنُ

جھیکا تو تَرْكُمُوا جکتے ہو تم ۞ قال الله تعالى وَلَا تَكُونُوا إِلَى الَّذِينَ
 ظَلَمُوا آيَةٌ ۞ مت جھومت تَرْجِعُونَ پرتے ہو تم تَرْجِعُ پیرے جاتے
 ہے تَرْجِعُونَ پیرے جاؤ گے تم تَرْيُدُ چاہتا ہے تو تَرْيُدُونَ چاہتے ہو
 تم تَرْوُونَ چاہتین ہو تم تَرْعَبُونَ خواہش کرتے ہو تم تَرْعَقُ جڑیگا تو
 تَرَاقَى ہنس تَرْقِصُ ٹہرنا تَرْقُصُونَ انتظار کرتے ہو تم ۞ قال
 الله تعالى فَاتَّبِعُوا بِيَدِي حَتَّىٰ حِينٍ ۞ انتظار کرو تَرْبِصْتُمْ انتظار کیا تینے
 تَرْضَىٰ رضی ہو گا تو تَرْضُونَ پسند کرو گے تم تَرْأَيْنُ آپسین رضی
 ہونا تَرَاضُوا راضی ہوئی وہ تَرَاضِنِيْمُ آپسین خوش ہونے تم تَرَاث
 مردے کا مال تَرْتُوا وارث ہونے ہو تم ۞ قال الله تعالى وَلَا
 تَرْتُوا النِّسَاءَ آيَةٌ ۞ مت وارث ہو تم تَرْتَا بُوَأَشْبُ کرتے ہو تم
 تَرْحُمُ رحم کریگا تو تَرْحُمُونَ بخشے جاؤ گے تم تَرْتَدُّوَابِلِيسَتے ہو تم
 تَرْوُ رُو کے جائیگے وہ تَرْوُونَ پیرے جاؤ گے تم تَرَاوُ وِو چاہتی
 ہے وہ تَرَوَاے گراؤ تَرَوَاے گرنے میں گراؤ تَرَوِينُ پھینکا جائیگا تو
 تَرَابُ مٹی تَرَابُ جہاتی کی ہڈی تَرْحُفُ کانپے گئے تَرْمِي
 پھینکتے ہے وہ تَرْمِقُ جڑھتے ہے وہ تَرْمِقُ ذَال تو تَرْمِقُ رُو
 دیتا ہے تو تَرْمِقَانِ روزی دیئے جاؤ گے تم دونوں تَرَاے دیکھتا
 ہے تو تَرَوُونَ دیکھتے ہو تم تَرِينُ دیکھیے تو تَرْمِي دکھلائیگا تو
 تَرَاةَ مَقَابِلِ ہوا اور ایک دوسرے کو دکھا تَرَاةَ مَقَابِلِ نظر آئے
 وہ تَرْمِبُونَ ڈراتے ہو تم تَرْمِبُونَ شام کو پیر لاتے ہو تم
 تَرْكَبُونَ سوار ہوتے ہو تم تَرْجُوْا امید رکھتا ہے تو تَرْجُونَ امید
 رکھتے ہو تم تَرْجِي جیے رکھیگا تو تَرْجِبُونَ سنگسار کر دی تم تَرْفَعُوا

او ہاتے ہو تم ترشح بلند کیا جائیگا تو ترقب پادر کہیگا تو تر کضوا
ایڑی تہی ہا ترشک ہیر ہیر کر پھینا تر صبح دودہ پلاویگی وہ :

فصل التار مع الزار

تاز

ترزال زائل ہوگا تو ترزول ڈیگا تو ترزولا گر پڑینگے دونو ترزل
ڈگ جائیگا تو تریلو کنارا پکڑا انہوں نے ترزا اور چوڑ دیتے ہے وہ ترشح
میرا کر گتا تو ترزکے سنوارا ترزکے پاکینزہ کرتا ہے تو ترز کو ایا کرئی
ہو تم تر عمون گمان کرتے ہو تم ترز عمون کہتے کرتے ہو تم ترز داؤ
بڑھتے ہے وہ ترز د بڑا دے گا تو ترزیدون بڑاؤ گے تم ترز درمی
حقیر جانتے ہے ترز و دوارا خرچ لوم ترز اوہاتی ہی وہ ترز ہق کہیگی

فصل التار مع السین

تس

تسینم نام ایک جشے کا ہے بہت میں تسبدر لون بدلتے ہو تم
تسرون چہاتے ہو تم تسیرون چہاتے ہو تم تسر خوش کرتی
ہے وہ تسق پلاتی ہے وہ تسق پلائی جائیگی وہ تسفلون
خون ریزی کرو گے تم تسال سوال کرتا ہے تو تسلون پوجتے ہو تم
تسل پوجا جائیگا تو تسلون پوجے جاؤ گے تم تسار لون اسپر
حاجت مانگتے ہو تم اور تم دیتے ہو تم تسر رخصت کرنی تسر صغوا
دودہ پلو اتے ہو تم تسور بری لگتی ہے تسامون ملول ہوتے ہو تم
اور کاہلی کرتے ہو تم تسود سیاہ ہو گے و تسفت پوجتا ہے تو
تسفتیان فتوے جاتے ہو تم دونوں تسطیع تسطیع طاقت
رکتا ہے تو تسطیعون طاقت رکھتے ہو تم تسقسو ما نشتے ہو تم
تسین ظاہر ہوتی ہے وہ تسیل جلدی کرتا ہی ہو تسجلون

جلدی کرتے ہو تم لَسَقَطْ گرتی ہے وہ لَسَقَطْ گراوگا تو تَا قِطْ گراوگا
وہ تَلَكُوا جلتے ہو تم تَتَكْفَرُ فہمت کرتا ہے تو تَتَكْفِرُونَ غور سے
کرتے ہو تم تَسْجُدُ سجدہ کرتا ہے تو تَسْجُدُوا سجدہ کرتے ہو تم تَسْوِيْ
برابر کیا جاوے تَسْحَرُ جادو کرے گا تو تَسْحَرُونَ جادو کئے جاوے گے تم
تَتَغَيَّبُونَ فریاد کرتے ہو تم تَتَفَتِحُوا فیصلہ چاہتے ہو تم تَسْتَفْظِرُ
بخشش مانگتا ہے تو تَتَغْفِرُونَ مغفرت چاہتے ہو تم تَسْتَبَوُا
گالی دیتے ہو تم تَسْمَعُ سنتا ہے تو تَسْمَعُونَ سنتے ہو تم تَسْتَمْرُونَ
خوب سنتے ہو تم تَسْمِعُ سناتا ہے تو تَسْكُنُ بانی گی یہ تَسْكُنُونَ
آرام پکڑتے ہو تم تَسْحَرُونَ ہنستے ہو تم تَسْتَوِيْ برابر ہوتی ہی
تَسْوُوا سوار ہوتے ہو تم تَسْرَحُونَ چراتے ہو تم صبح کے وقت
تَسِيمُونَ چراتے ہو تم تَسْخِرُونَ نکالتے ہو تم تَسْخِفُونَ
ہلکا جانتے ہو تم تَسْبِيحُ پاکی بیان کرنے تَسْبِيحُ پاکی کے ساتھ یاد کرتی ہے
تَسْبِجُونَ پاکی بولتے ہو تم تَسْجِيْبُونَ جواب دو گے تم تَسْتَعِيْ
تَوَلِّعُ لَسْعَةُ زَلِيعُونَ نوے تَسْتَلِيسُوا اُنیت پکڑتی ہو
تم تَسْلِمُونَ حکم مانو گے تم تَسْلِمُ سلام کرنا اور فرمان برداری بجالانی
تَسْلِمُوا سلام کرو گے تم تَسْتَقْدِمُونَ شتابی کرو گی تم تَسْتَأْخِرُونَ
دیر کرو گے تم تَسْتَوِرُوا دیوار پر چڑھے تَسْوِيْرُ چیلے تَسْوِيْتَةُ نام رکھنا
تَسْتَيْ نام رکھا جاتا ہے وہ تَسْتَهْرُونَ ہٹھا کرتے ہو تم تَسْتَيْشُ آگے
ہوتی ہے وہ تَسْتَرِفُوا اسراف کرو گے تم - ❖

تس

فصل الثامن مع اثنين

تَشْخَصُ مَلِكِيْ كَيْفَ بِنْدِيْ كِي تَشَاؤُ جانتا ہے تو تَشَاؤُونَ چاہتی ہو تم

تَشْرُوفًا مَوْلًى لَيْتِي هُوَ تَمَّ تَشْرُوفًا أَحْسَنَ مَا نَتَى هُوَ تَمَّ تَشَابَهُ شَبْهٍ مِثْلٍ بِرَأْسِهِ
 تَشَابَهُتٌ مِثَابَهُ هُوَ لَمْ يَكُنْ تَشَاهِدٌ كَوَاهِي دِيْتِي هُوَ وَهْ أُوْر كَوَاهِي
 دِيْتَا هُوَ تُو تَشَاهِدُونَ كَوَاهِي دِيْتِي هُوَ تَشَعْرُونَ شَعْرًا رَكْتِي هُوَ تَمَّ
 تَشْرِكٌ شَرِيكٌ كَرْتَا هُوَ تُو تَشْرِكُونَ سَاجِي هُوْرَا تَمَّ تَشْرِمَتْ
 خَوْش كَرْتَا هُوَ تُو دَمْنٌ كُو تَشَاقُونَ صَد كَرْتَا هُوَ تَمَّ تَشَقُّ شَقَّتْ مِثْنِ
 بِرِيكَ تُو تَشْرِبُونَ بِتِي هُوَ تَمَّ تَشَاوِرُ أَسْمِيْنَ مَشُوْرَه كَرْنَا تَشِيحٌ بِسَلِيْتِي
 مِثْنِ لَشَطُّطٌ دُوْرًا تَا هُوَ تُو تَشْفِقُ شَفِيكٌ وَهْ تَشْتِي جَاهِي
 هُوَ وَهْ تَشْتِيكٌ جَمِيْلَتِي هُوَ وَهْ شَكُوْه كَرْتَا هُوَ

فصل التار مع الصاد

تص

تَصْلِيَةً بِهِنَا تَصْلِيَةً بِهِنَا كُو وَهْ تَصَدِيْقَةً تَالِي جَانِي تَصَدِيْقَةً دَرِي
 هُوْتَا هُوَ تُو تَصَدُّونَ رُو كَرْتَا هُوَ تَمَّ تَصْرُفٌ بِهِيْكَ تُو تَصْرُفُونَ
 بِهِيْرِي جَاوُ كُو تَمَّ تَصْرِيفٌ بِهِيْرَا تَصْوُومًا رُوْرَه رَكْتِي هُوَ تَمَّ تَصِيْدٌ
 سَجَانَا تَصَدِّقُونَ سَجَاتِي هُوَ تَمَّ تَصَدِّقٌ خِيْرَاتِ كِي أُوْسِي تَصَدِّقٌ
 خِيْرَاتِ كَرْتُو تَصَدَّقُوا خِيْرَاتِ كَرُو تَمَّ تَصْيِبٌ بِهِنِيْتِي هُوَ تَصْيِبُوا بِهِنِيْتِي
 هُوَ تَمَّ تَصْيِرٌ بِهِيْرِي هُوَ وَهْ تَصْبِرٌ صَبْرٌ كَرِيكَ تُو تَصْبِرُونَ سَهَارٌ
 تَمَّ تَصْعَرٌ بِسَلِيْتَا هُوَ تُو أُوْر بِهِيْرَا هُوَ تُو تَصْنَعٌ أَثِيْرِي هُوَ مِثْنِ
 تَصْعَدُونَ جَرِيْتِي هُوَ تَمَّ تَصْعَدُونَ صِلِحٌ كَرْتَا هُوَ تَمَّ تَصْلِيَةٌ نَازِيْتِي
 تُو تَصِفٌ وَصْفٌ كَرْتَا هُوَ وَهْ تَصِفُونَ وَصْفٌ كَرْتَا هُوَ تَمَّ تَصَارُفٌ
 سَا تَرَكِيكَ تُو تَصْنَعُونَ كَرْتَا هُوَ تَمَّ تَصْنَعٌ بِنَا جَانِيكَ تُو تَصْطَلُونَ
 تَابِيْتِي هُوَ تَمَّ تَصْبِيحٌ صَبْحٌ هُوَ جَاوُ تَمَّ تَصْبِحُونَ صَبْحٌ كَرْتَا هُوَ تَمَّ
 تَصْفِيَةٌ اِ دَر كَز كَرْتَا هُوَ تَمَّ

ت ص

فصل التار مع الضاد

تَضَخُّوْنَ ہنستے ہو تم تَضَعُ رکھتی ہے اور جنتے ہے وہ تَضَعُونَ
 رکھتے ہو تم تَضِلُّ بہو لجاتا ہے تو تَضِلُّوا بہکتے ہو تم تَضِلُّ گمراہ کرتا ہے تو
 تَضِيلُ گمراہ کرنا اور غلطی میں ڈالنا تَضَى دہوب کہا ویگا تو تَضَرُّوا
 بیان کرتے ہو تم تَضَرَّ گمراہ کرنا تَضَرَّ عِزُّ گمراہ کیا وہ تَضَرَّ عِزُّوا گمراہی وہ
 تَضَرُّوْنَ نقصان پہنچاؤ گے تم تَضَارُ نقصان پہنچائی جاتی ہے وہ
 تَضَارُوا ایذا پہنچاؤ گے تم تَضَيَّقُوا تنگ کرو گے تم -

ت ط

فصل التار مع الطار

تَطْرُدُ ہانکتا ہی تو تَطِيرُ پاک کرنا تَطِيرُ پاک کرتا ہے تو تَطِيرُنَ
 پاک ہوئیں وہ تَطِيرُنَا نامبارک سمجھے ہم تَطْمَعُونَ توقع رکھتے ہو تم
 تَطْمَعُونَ کہلاتے ہو تم تَطْلِعُ جہانگے گی وہ اور جردار ہوتا ہے تو
 تَطْوَعُ اپنی طرف سے یا اور تَطْوَعُ تابعداری کر گیا تو تَطِيعُوا طاعت کرو گے
 تم تَطْمِنُ آرام پکڑتے ہے وہ تَطْعُوا اطمینانی کرو گے تم تَطْنُوْا کہندلتی ہو
 تم تَطَاوُلُ بسنے ہوئے وہ ❖

ت ظ

فصل التار مع الظار

تُظْهِرُونَ ظہر کرتے ہو تم تَطَاهِرُونَ ظہار کرتے ہو تم تَطَاهِرُ اہلین
 مدد کی دونوں نے تَطَاهِرُونَ اہلین بستی کرتے ہو تم تَطْمِنُوا پھاسا
 ہوگا تو تَطْمِنُ ستم کیا تو نے تَطْمِنُونَ ظلم کرتے ہو تم تَطْمِنُ ظلم کی جائیگی
 اور ظلم کیا جائیگا تو تَطْمِنُونَ ظلم کی جاؤ گے تم تَطْمِنُ خیال کرنا ہی تَطْمِنُونَ اٹکتے ہو تم

فصل التار مع العين

تَعْمَلُ کام کریگی تَعْمَلُونَ کام کرتی ہو تم تَعْلَمُ جانتی ہے وہ -

ت ص ت ط ت ظ ت ع

تَعْلَمُونَ جانتے ہو تم تعلّم سکھاتا ہے تو تَعْلَمُونَ سکھاتی ہو تم
 تَعْمَلْ اندھی ہوتی ہے وہ تَعْقِلُونَ بوجتے ہو تم تَعْلَمُونَ ظاہر کرتے ہو تم
 تَعَجَّلْ جلدی کی اوسنی تَعَجَّلْ جلدی کرنا ہی تو تَعَجَّرُوا قصد کرتے ہو تم تَعَجَّرُوا
 عزت دیتا ہے تو تَعَا وَتَوَادِدُ کرتے ہو تم تَعَالَى اونچا ہوا اور تَعَالُوا
 زور کرتے ہو تم تَعَالُوا اوسب مرد تَعَالَيْنَ اوسب عورتیں تَعَدُّ
 فدیہ دی گی و تَعَدُّ لَوْ الضاف کرتے ہو تم تَعَوُّوا بھکتے ہو تم تَعَدُّ
 وعدہ کرتا ہے تو تَعُدُّ پرتا ہے تو تَعُوذُونَ پرتے ہو تم تَعَدُّوا
 زیادتی کرتی ہو تم تَعْتَدُوا حد سے بڑے ہو تم تَعْتَدُونَ حد میں
 بیٹھواتے ہو تم تَعْرِضْ مِنْ پرتا ہے تو تَعْرِضُوا مِنْ پھیرو گے تم
 تَعْرِضُونَ سامنے کے جاؤ گے تم تَعَثُّوا خرابی مچاتے پرتے ہو تم
 وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَعْتَوِي الْاَرْضَ مِنْ مَفْسِدَيْنِ هَا مت پر تم
 زمین میں خرابی مچاتے صفت تجرید ہے یعنی تشو کے معنی صرف
 پھرنے کے لئے اور بس تَعِظُونَ نصیحت کرتے ہو تم تَعْتَدُونَ
 بہانہ کرتے ہو تم تَعَجَّبْ حیرت میں پرتا ہے تو تَعَجَّبُونَ اچنبھا
 جانتے ہو تم تَعَجَّبِينَ تعجب کرتے ہے تو تَعَجَّبْ خوش کرتے ہے ہ
 تَعَبْرُونَ تبیر کرتے ہو تم تَعْدُونَ گنتی ہو تم تَعَذَّبْ شکنجے
 لیکا تو تَعْرِمِي رنگا ہوگا تو تَعَبُّونَ کہیتے ہو تم تَعْرِفْ
 پہچانتا ہے تو تَعْرِفُونَ پہچانتے ہو تم تَعَارَفُوا آپس میں پہچانتے
 ہو تم تَعَا سَرْمُ صَدُكِي تَمَنَّ تَعَدَّتْ ارادے سے کیا اوسنی تہی یاد رکھی اور
 نگاہ کی تَعَفَّفْ نہ مانگنا تَعَبُّدُ بوجتے ہو وہ اور بوجا ہی تو تَعَبُّونَ
 بوجو گے تم اور بوجتے ہو تم تَعْدَانِ وعدہ دیتے ہو تم دُونِ

لَقَسَ ہلا کے تَعَزَّرُوْا مدد کرو گے تم لَقَا طے ہاتھ چلایا اوسنی لَعَضُوْا
روکتے ہو تم لَعَفُوْا معاف کرتے ہو تم لَعْرُجُ چڑھتے ہے وہ۔

تغ

فصل التاریع العین

لَعْفُوْنَ غافل ہو گے تم تَعْلِبُوْنَ غالب ہو گے تم تَعْمِضُوْا بند
کرتے ہو تم لَعَلُّوْا مبالغہ کرتے ہو تم لَعْفِرُ معاف کرتا ہی تو لَعْسَا
ڈانہی گا تو لَعَشْمُ ڈانپا اوسنی تَعِیْطُ جھنجھلانا لَعْرُ فرب دینی ہے
لَعَابِنُ ہارجیت تَعْنِیْ کام آویگی تَعْنُ کام آیا اور کام آوی گا تو
اور کام آئے ہے تَعْنُ ہی و تَعْنِضُ کم کرتے ہے و تَعْرُقُ ڈباوگا
لَعْرَبُ ڈوبتا ہے و تَعْفِرُ وَا بَخْشِش کرتے ہو تم لَعْتِ كُوَاہِلَا و تم۔

تف

فصل التاریع الفار

تَقْوَرُ جوش مارتی ہی و تَقْتُ میل تَقِرُّوْنَ بہا گتے ہو تم تَفَاوْتُ
فرق تَقْرُقُ پھوٹا تَقْرُقُوْا بکھرتے ہو تم تَقْسِدُوْنَ فاد کرتے
ہو تم تَقْسُقُوْنَ بجلی کرتے ہو تم تَقَادُوْنَ فدیہ دیتے ہو تم تَقْفَلُ
کرتا ہے تو تَقْفَلُوْنَ کرتے ہو تم تَقْلِحُوْنَ مراد کو پہنچو گے تم تَقْفِیْ
رجوع کریگی و تَقْشَلَا نامردی کرو گے تم دو نون تَقْشَلُوْا نامردی
کرو گے تم تَقْبِضُ بیٹے ہے و تَقْبِضُوْنَ بیٹے ہو تم تَقْتِنُ فتنے میں
ڈالتا ہے تو تَقْتِنُوْنَ جانچے جاؤ گے تم تَقْتِرْمِ بہتان کرتا ہے تو
تَقْتِرُوْنَ افراتے ہو تم تَقْفِدُوْنَ ڈھونڈتے ہو تم تَقْفِدُ ڈھونڈنا
تَقْتِدُ واپسکا جانتے ہو تم تَقْتِحُ کھولے جائیگی و تَقْفِهُوْنَ باتین
کرتے ہو تم تَقَاخِرُ بڑائی تَقْضِیْلُ بزرگی تَقْرَضُوْا پھیراتے ہو تم
تَقْرَحُ ریچھا ہے تو تَقْرَحُوْا ریچھتے ہو تم تَقْسَحُوْا کہل بیٹھے ہو تم

تَقْتَبُوا ہمیشہ ہے تو تَقْفُون سبھتے ہو تم تَقْتَبُوا یہاں تَقْتَبُوا خوب
 بہاویگا تو تَقْتَبُوا بہاویگا تو تَقْتَبُوا کہو لکر کہنا تَقْتَبُوا بیان کرنا
 تَقْتَبُوا جدا کرنا تَقْتَبُوا ارسوا کرتے ہو تم

فصل التار مع القاف

ت ق

تَقْرُبُ نزدیک ہوتی ہے تَقْرُبًا نزدیک ہو گے تم دونوں تَقْرُبُوا
 پاس جاؤ گے تم تَقْرَبُ نزدیک کر دوے تو تَقْوِمُ سیدھا کرنا
 تَقُولُ کہتی ہے وہ اور کہتا ہے تو تَقُولُونَ کہتے ہو تم تَقُولُ
 بنا لایا وہ تَقُولُوا قبول کرو گے تم تَقْبَلُ قبول کھائے گے تَقْبَلُ
 قبول کیا اوسنی تَقْبَلُ قبول کی گئی وہ تَقْبَلُ قبول کر تو تَقْبَلُ اوند ہے
 کی جاگی تَقْبَلُونَ پھرے جاؤ گے تم تَقْبَلُ بٹنا تَقْطَعُونَ
 کاٹتے ہو تم تَقْطَعُ کٹ گیا تَقْطَعُوا کاٹا اور ہوئے کٹ گئی تَقْطَعُ
 کاٹی گئی تَقْطَعُونَ مگرے کر ڈگے تم تَقْتُلُ قتل کریگا تو تَقْتُلُونَ قتل
 کرتے ہو تم تَقَاتِلُ لڑائی کرنی ہے تَقَاتِلُونَ لڑائی کر دو گے تم تَقْتِلُ
 جان سے مارنا تَقْسِطُوا انصاف کرو گے تم تَقْعُ گر بی تَقْصُرُوا
 کم کرو گے تم تَقْمُ کڑی ہوتی ہے تَقْوَمُ کھرا ہوتا ہے تو تَقْوَمُوا
 کھڑے ہوتے ہو تم تَقِيمُوا قائم کرو گے تم تَقْفُ بیٹی کا تو تَقْعِدُوا
 بیٹھو گے تم تَقْدِرُ سادہنا تَقْدِرُ واقادہ ہو گے تم تَقْضُ بیان
 کرتا ہے تو تَقْرُرُ پڑھتا ہے تو تَقْرُضُ کہی جاتی ہے تَقْرُضُوا ادا
 دیتے ہو تم تَقْرُثُ ہنڈ ہے ہوتے ہے اور قرار پکرتی ہے وہ تَقْرُثُوا
 قسم کہاؤ گے تم تَقَا سَمُوا اسپین سو گند کہا تے ہو تم تَقْشُرُ بال کھر
 ہوتے ہیں اور کانپتے ہیں تَقْضُ حکم کریگا تو تَقْفُ بیٹے پڑے تو

سے وہ تلفیت پھیرتا ہے تو تلفیح جلاوگی و تلیخ کہیل میں ڈالتے ہے
تلیخے بازی کرتا ہے تو تلی سے آباہ تلیخے شعلہ مارتی ہے اور تلیخے
ہے وہ تلیخین نرم ہوتی ہی تلی چھاپا اور ملکہ لذت پاوگی ملک یہ تلیخا یہ وہ تلیخہ

فصل التار مع لمیم

لمر حون اتراتے ہو تم کثرون دہو کہا رکھتے ہو تم سے نکایا جاتا
ہے وہ تلیخ احسان رکھتا ہے تو کثرون آرزو کرتے ہو تم اور احسان
رکھتے ہو تم سے احسان رکھا اور خیال ماند ہا یعنی آرزو کی کنی کثرون آرزو
کر وہ تم سے فائدہ لیا تم سے فائدہ لیتی ہو تم سے فائدہ دی جاو گے
تم سے فائدہ لے تو تم کو بند کر و گے تم سے تم سے چوتی ہی وہ
مستوا چوتے ہو تم کثوت مرتی ہے کثوتون مرو گے تم تمام
پورا تمیلوا مڑتے ہو تم ملک ملک ہو گا تو ملکون ملک ہو گے تم
تم پورا ہوا وہ تم سے پورے ہوئے وہ تم سے تیاری تم سے جہکی گے
تم سے دراز کر گیا تو کثوتون رفاقت کرتے ہو تم کثوتون چلتی ہی کثوتون
گذرتے ہو تم کثوتون رزگی تم سے جگرتا ہے تو کثوتون جگرتے ہو تم کثوتون
شک کئے او ہون لے تم سے بجالیوے کثوتون شام کرتے ہو تم -
تم سے چلتی ہے اور چلتا ہے تو کثوتون چلتے ہو تم کثوتون مور تین
تم سے صورت ہی تم سے بہت پڑے کثوتون مکر کرتے ہو تم سے لکھے جاتے

فصل التار مع النون

تیکم کناح کرتے تیکون کناح میں لاو گے تیکون کناح میں دو گے تم
تیکون نفع کریگے تیکون ہولتے سے تیکون ہولتے ہو تم سے ہولتے ہو
جائیکا تو تیکون خرچ کرتے ہو تم تیکون جگرتے تم تیکون جگرتے

تم

تان

تم تنازوا بلاؤ کے تم تنکیل عذاب اور سزا تنال پہنچتی ہے وہ تنالوا
 پہنچو گے تم تنفع پہنکتا ہے تو تنہے روکتی ہے وہ اور روکتا ہے تو
 تنہون منع کرتے ہو تم تنہون منع کئے جاؤ گے تم تنہہ باز آئیگا تو
 تناموا اسپین منع کیا اور ہون نے تنہوا باز آؤ گے تم تنزل اترتے
 ہے وہ تنزل اتر گا تو تنزل اترنا ناسرت اترے وہ
 تنفر واکج کرو گے تم تنبی بجا دی گا تو تنہون جاتے ہو تم
 تنور روئی پکانی کی چیز مشہور ہے تنقص گناہ سے تنقصوا
 کم کرتے ہو تم تنقصوا تورتے ہو تم تنفد نبر جاوے گے وہ تنفدن
 غل بہا گو گے تم تنبت اگتے ہے وہ تنبت اوگاتے ہے وہ
 تنبتون اوگاتے ہو تم تنجتون تراشتی ہو تم تنشرون پرتے
 ہو تم تناوش پہنچنا تنصر مدد کرتا ہے تو تنصروا مدد کرو گے تم تنصرون
 مدد دیے جاؤ گے تم تناصرون ایک دوسری کو مدد کرتے ہو تم تنصران
 بدلاؤ گے تم دونوں تنوؤ تہکتا ہے وہ تیجے نجات دیوے تو
 تنا جنیم کان میں بات کی تے تنا جواکان میں بات کرتے ہو تم تنظر
 دیکھے تو تنظرون دیکھتے ہو تم تنظرون ڈھیل دیتی ہو تم تنفس
 دم برتے ہے وہ تنقلبوا پر دگے تم تنکصون اولٹے پرتے ہو تم
 تنکرون انکار کرتے ہو تم تنقد خلاص کریگا تو تنخر جہرکتا ہے تو
 تنذر دراتا ہے تو تنقم بیر کہتا ہے تو تنقون بیر رکھتے ہو تم
 تنترع نکالتا ہے تو تنشق پٹے گی تنسیاستے کرتے ہو تم دونوں
 تنطون بولتے ہو تم تناد بکارنا تناد واپکار اور ہون نے

تَوْبَةٌ ۖ تَوْبٌ رَجُوعٌ كَرْنَاكَ هُنَّ مِنْ سَطْرِ السُّدِّ كِي تَوَابٌ تَوْبٌ كَرْنَا
 اور توبہ قبول کر نیوالا تَوَابٌ مِّنْ تَوْبَةٍ كَرْنَا لَمْ تَوْبُوا تَوْبَةً كَرْنَا تَوْبٌ كَرْنَا
 کیا جاتا ہے تو تَوْبُونَ حُكْمٌ كَرْنَا جَلْتُمْ تَوْبُونَ اِيْمَانٌ لَا تَأْتِي تَوْبَةً
 تَوْبُونَ اِيْمَانٌ لَا تَأْتِي تَوْبَةً دِيْتِي دِيْتِي دِيْتِي دِيْتِي دِيْتِي دِيْتِي دِيْتِي
 دیتے ہو تم تَوْبُونَ دَنُءٌ جَاوُكُم تَوْبُونَ بُوْرَادِيَا جَاوُكُم تَوْبُونَ
 بُوْرَادِيَا جَاوُكُم تَوْبُونَ مَارْتِي هِي دِيْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي
 تَوْبُونَ مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي
 موسیٰ علیہ السلام پر اترتی ہی تَوْبُونَ تَوْبُونَ تَوْبُونَ تَوْبُونَ تَوْبُونَ تَوْبُونَ
 مَنَّهُ مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي
 پیہہ پیری تِنِّ تَوْبُونَ مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي
 پیر اور دوستی کر دتم تَوْبُونَ مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي
 تم تَوْبُونَ دَعْدَةٌ دِيْتِي جَاتِي تَوْبُونَ دَعْدَةٌ دِيْتِي جَاتِي تَوْبُونَ
 تَوْبُونَ دَعْدَةٌ دِيْتِي جَاتِي تَوْبُونَ دَعْدَةٌ دِيْتِي جَاتِي تَوْبُونَ
 رکھیگا تو تَوْبُونَ دَعْدَةٌ دِيْتِي جَاتِي تَوْبُونَ دَعْدَةٌ دِيْتِي جَاتِي
 تَوْبُونَ دَعْدَةٌ دِيْتِي جَاتِي تَوْبُونَ دَعْدَةٌ دِيْتِي جَاتِي تَوْبُونَ
 تَوْبُونَ دَعْدَةٌ دِيْتِي جَاتِي تَوْبُونَ دَعْدَةٌ دِيْتِي جَاتِي تَوْبُونَ
 تَوْبُونَ دَعْدَةٌ دِيْتِي جَاتِي تَوْبُونَ دَعْدَةٌ دِيْتِي جَاتِي تَوْبُونَ
 دے نی تَوْبُونَ مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي
 دیتے ہو تم تَوْبُونَ مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي
 وصیت کی ادھون نے تَوْبُونَ مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي
 ہو تم تَوْبُونَ مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي
 بزرگ جانتے ہو تم تَوْبُونَ مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي
 بُوْرَادِيَا جَاوُكُم تَوْبُونَ مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي مَارْتِي

یہاں فاضل کی رعایتی جمع کے معنی لکھے گئے

برآں

ت ہ

فصل التار مع الہار
 تہجد جاگتارہ اور نماز تہجد کے پڑھ تو تہجدکہ بلاکی تہیکٹ ہاک کر گیا تو
 تہجد ڈوڑتے ہے وہ تہجدے راہ بتاتا ہے تو تہجدو راہ بناوگے
 تم تہجدمی راہ باقی ہے وہ تہجدون راہ پاوگے تم تہجدے جا
 ہے وہ تہجدے چکتے ہے وہ تہجدوست ہوتے ہوتے تہجدون چورڈ
 ہوتے تہجدو ادن چورڈو تم

تی

فصل التار مع الیار
 تیسر آسان ہوا وہ تیسوا نا امید ہوگے تم تیسوا قصد کرو تم میں یہ دو عزیزین

ب

باب التار

شا

فصل التار مع الالف

شائے پہر نیوالا اور دور کر نیوالا اور دوسرا ثالث ثالث تیسرا
 تارن آہوان شائے رہنے والا شائب روشن چکنے والا ثابت ہوا

شاب

فصل التار مع البار

شآت گروہ گروہ اور جدا جدا شبت شبتنا قائم رکھنا
 شبت قائم رکھو تو شبتو قائم رکھو تم شبتو بلاکی شبتو بوجیل کر دیا اسنے

شآت

فصل التار مع التار والتار خالی

شآت
 شج

فصل التار مع الجیم

شج

شج ریلا یعنی پانے زور دار -

شج

فصل التار مع البحار و البحار و الدال و الذال خالے

شج

فصل التار مع الراء شج شج کے زین -

شج

فصل التار مع الزار و السین و الشین و الصاد و الصناد

شج

شج

شج

شج

شج

والطار والطار ۛ خالے ۛ فصل الشارح العین
تعبان اژدها ۛ فصل الشارح العین والطار خالے

ط ش ظ
ش ح
ش هـ ش ت

فصل الشارح القاف

ش ق

ثقیل بہاری ثقلان دو بہاری چیزیں یعنی جن اور انس ثقل بہار
چیزیں ثقلت بہاری ہوئی وہ تقصموا پانی متے ثقفوا پائے گئے وہ

ش ل

فصل الشارح الکاف ۛ خالی ۛ فصل الشارح اللام
ثلثۃ تین مرد ثلث تین عورتیں ثلاث تین تین ثلث تہا
ثلثان دو تہائی ثلثین تلمون تیس ثلثہ ابوہ ۛ

ش ل

فصل الشارح لمیم

ش م

لمثو حضرت صباح کے قوم کا نام ہے کثر پہل کثرۃ ایک پہل کثرات
بہت پہل کثر پر کثر اور کثر کثرن مول اور قیمت کثرن آہوان حصہ شمارتہ کثر
آہنہ شمارتہ کثرن اسی ۛ فصل الشارح النون خالے فصل الشارح الواو
توآب بدلا توآب بدلا دیا گیا وہ ۛ فصل الشارح الہاء خالی

ش و

فصل الشارح الیاء

ش ی

ریاب کڑے پتیاات بیابان اور ہوا میں ۛ

باب الحمیم

ش ب

فصل الحمیم مع الالف

ش ج

جالوت نام ایک بادشاہ کا فر کا تھا قوم عاد سے دشمن بنی اسرائیل کا
جاء آیا وہ جائوا آئے وہ جارث آئی وہ چئت آیا تو جلدتموا جلتتم
آئے تم چئت آیامین چئت آئے ہم جابل نادان جابلون نادان
جانلیتہ نادانی اور زمانہ پیش از اسلام کا جامع کہا کرتے تھے جابہ کوشش کے

جراد ڈیان جرف غار اور جبکہ میں پانی جمع ہو فارسی میں اوسکو آبگیر کہتے ہیں
بعضوں نے اوسکی معنی گہائی اور کھارسی لکھی ہیں جرف زخم سے جرف زخم کی مانند جرفین ہیں

فصل الحیم مع الزاء

ج ز

جراد بدلا جرنیت بدلا دیا یعنی جرنیت بدلا دیا یعنی جرنیت خراج کہ کافرون سے لیتے ہیں
جرف عے بے قرار جرف غنا بے قرار ہوئے ہم جرف زخم ٹکڑا

فصل الحیم مع سین

ج س

جسم بدن جسد دہڑ : افضل الحیم مع اشین والصاد
والضاد والطار والطار : خالی : فضل الحیم مع العین
جعل بنایا اوسنی جعلاً شیرا یا دونوں نے جعلوا شیرا یا انہوں نے
جعلت کیا اوسنی جعلت شیرا یعنی جعلت کیا یعنی جعل کیا

ج ش ج ۲
ج ص ج ۲
ج ط ج ۲

فضل الحیم مع لغین : فضل الحکیم مع الفاء جفا کور کچر یعنی مل جفا
فضل الحیم مع القاف والکاف : خالی : فضل الحیم مع اللام :
جلد قہقہ جلو و کہا لیں جلا برب چادرین جلا راجرنا جلال بزرگی جلی روشن کیا

ج غ ج ۲
ج ق ج ۲
ج ل

فصل الحیم مع المیم

ج م

جمعة نام ایکن کا ہے کہ عید مسلمانوں کے ہے جمع جماعت جمعان دونوں
جمع سب جمع انہا کیا اوسنے جمعوا انہا کیا اوہوں نے جمعنا انہا کیا یعنی
جمع انہا کیا گیا وہ جعل اونٹ جمالہ اونٹوں کی قطار جمال خوبی جمیل بہتر جملة ایبار کے

فصل الحیم مع نون

ج ن

جنم بہت : فضل الحیم مع نون
جن پری جنتہ پر بیان اور دیوانگی جنتہ ڈال جنتہ باغ جنتان دو باغ
جنتات باغ سب جنی کچور تازی جنی ہونی جباح گناہ جن بارو جتا چنا
جناح دو بارو جنٹ دور اور ناپاک جنٹ پہلو (ش) جنٹ پہلو

جن
جنم بہت
جنم بہت
جنم بہت
جنم بہت

(ج) جَنَفْ طَرَفْداری جَنخَوَاجِکے جُنْد فوج جُوْد فوجین

ج و

فصل الحیم مع الواو

جَوَ اِرْخ جانور شکاری جو آسمان اور زمین کے بیچ جوع بہوک جووی نام
پہاڑ کا ہی شام کے ملک میں جَوَف پٹ جَوَاب بولنا اور تالاب جَوَار کشتیان

ج ہ

فصل الحیم مع الہاء

جہنم نام ایک دوزخ کے طبقے کا ہے جہاز سہاب جہز تیار کر دیا اور سنے
جھمک چار نا جھمک چار اور سنی جہڑہ کہا جہاز ظاہر جہالت نادانے
جہنوک بڑا نادان جہد کوشش جہاد کا فون سے لڑنا

ج ی

فصل الحیم مع الیاء

جیب گریبان جیوب گریبانین جیاد بہتر جید گردن چینی لایا گیا وہ

ب

باب الحاء

ح ا

فصل الحاء مع الالف : ح ح ح عسوق یہ حروف مشابہات کے
بین مجمل حال سب کا آلم میں لکھا گیا بعضوں نے کہا ہے کہ اسماء الہی ہیں اور
بعضوں نے جناب الہی کی مبادی کہے ہیں اور غرض ہر طرح سے تاویل مناسب
کرتے ہیں حَام اوس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جکے پیشے سے دس بچے پیدا ہوں
لائق سواری کے تب اوس اونٹ کو سواری اور لادن سے موقوف کر دیتے
اور اوس سے گھاس اور پانی منع کرتے اور کہتے تھے ظہر یعنی بچا یا اوسنی بچے
پیٹھ کو سواری سے اور لادن سے حَامِیۃ گرم ہونیوالی اور خوب گرم حَاق ثابت
ہوا اور گرداگرد گھیرا حَاقۃ ثابت ہونیوالے اور وہ عذاب کہ نہ پہرے حَاش
بیزاری حَافِظ نگہبان حَافِظُون نگہبانی کرنوالے حَافِطَات نگاہ رکھنی والیاں
حَافِظُوا نگاہ رکھتے حَاج حج کرنے والے حَلَج جگڑا کیا اوسنی حَاجُوا جگڑا کیا

دے جاچشم جگر کیلئے حاجتہ احتیاج حاضر روبرو حاضر رہنے والی حاضرہ
 موجود حاقین گرداگرد کھڑے رہنے والے حاسبتنا حاب میں لیا ہم سے
 حاسپین گنی والے حامدؤن سر رہنے والے حاکمین فیصلہ کرنیوالے
 حال حائل ہوا وہ حارب لڑائی کی اوسنے حادسراغ کیا اوسنی حاشتر
 جمع کرنے والے اور نقیب سب حادرؤن ڈرنیوالے حاطین اوٹھانیوالے
 حاطات اوٹھانی والین حاجر منغ کرنیوالا حاجرین منغ کرنیوالے حافرہ اٹھ
 باؤن اور پہلے حالت حاسد بدخواہ حاصب ہوا سخت

فصل الحار مع البار

ح ب

حک راہ اور جالا حبت دوستی حبت دوستی کے اوسنی حبت
 حبتہ دان حبط ناچیز ہوا وہ حبط ضائع ہوئی وہ حبل رگ اور سی حال رسیا

فصل الحار مع التار

ح ت

حقی جب تک حرف ج رہے اور حرف ناصب بہ تقدیر ان حتم ضرور

فصل الحار مع التار حثیت دوڑنا فضل الحار مع کبیم

ح ح ح ج

حجارتہ کنکر حجر پتھر حجر منغ کرنا اور عقل اور نام ہے ایک سبتی کا کہ ممکن تھا
 قوم ٹٹوڈ کا حجور گودین حجرات کو ٹھیریاں حجاب پردہ حج کرنا
 حج ارادہ کرنا حج کیا اوسنے حج برس (ج) حجہ دلیل

فصل الحار مع الحار و الحار ہ غالی فضل الحار مع الدال

ح ح ح ح

حدیث بات حدیث بات کہہ تو حدائق باغون حذب مکان بلند
 حدو وقاعدے حدادیز چیزین حدید لوہا اور تیز

فصل الحار مع البذل

ح ذ

حذر ڈرنا حذر ڈرنا اور مکان محفوظ اور بچاؤ

فصل الحار مع الزاء

ح ر

حَرْث کبیتی حَرْب لڑائی حَرْد ارادہ حَرْس چوکیدار حَرْمی حُرُور لو حَرِیر
 ریشی باریک کبڑا حُرّ ازاد کیا ہوا حَرَص بڑا پا حَرَض تیز کرنا حَرَام نادر و حَرَم جہیز
 منع کی ہوئیں حُرّمات عزت کی چیزیں حَرَم منع کیا اوسنی حَرَمُوا منع کیا اور حَرَمْنَا منع
 کیا یعنی حَرَم منع کیا گیا وہ حَرَمْت منع کئے گئے وہ حَرَم مکہ حَرِیق جلانی والے
 حَرَقُوا جلاؤ تم حَرِیص بڑا طمع والا حَرَصْت آرزو کی تونی حَرَضْت آرزو کی تے

ح ز

ح س

حَرْف کنارہ حَرَج خلکی ۛ فصل الحار مع الزاء ۛ حَزْن غم
 حَرَن غلگین حَرْب گروہ جز بنین دو گروہ ۛ فصل الحار مع سین
 حَسَن خوب صورتی اور نیکے حَسَن نیکے حَسِنین دو نیکان حَسَن نیک
 حَسَن نیک حَسَنات نیکان حَسَن نیک ہوئے وہ حَسَن عمدہ چیزیں
 حَسْرَة افسوس حَسْرَات افسوسین حَسْرَتے افسوس حَسْب گنا اور بس
 حُسبان اندازہ اور آفت اور مذاب حَسْب خیال کیا اوسنی حَسْبُوا سمجھے
 حَسِبْت سمجھے وہ حَسِبْت خیال کیا تو نے حَسِبْتُمْ خیال کیا تے حَسِب حَسَب
 لینے والا حَسَاب گنا حَسَابِہ حساب میرا اصل میں حَسَابِی تھا حالت و قنوی میں
 حرف ہا اوسکے آخر میں لاحق کیا حَسِيس آواز نرم حَسِیر عاجز ہوا حَسُوم بی دہنی حَسْرَت

ح ش

فصل الحار مع الشین

حَشْر جمع کرنے حَشْر جمع کی اوسنے حَشْرَت اوٹھایا تو نے حَشْرَتَا
 جمع کیا یعنی حَشْر جمع کیا گیا وہ حَشْرَت جمع کے گئے وہ ۛ

ح ص

فصل الحار مع الصاد

حَصُور روکا گیا اور جو عورت کے پاس نہ جاوے یہ صفت ہے حضرت بھی
 کے حَصِیر بندی خانہ حضرت تنگ ہوئے وہ حَصَاد کا نا حَصِید کتا ہوا حَصْن

کا نام تھے **مُضَعَض** ظاہر ہوا وہ **مُضَب** ایندھن اور چوپڑی کے اگلے سگدا دین **مُضَوْن**
 قلعے **مُضَل** حاصل کیا گیا وہ **مُض** **فصل الحار مع الصاد** **مُض**

ح ص

مُضَر رو برد ہوا وہ **مُضَرُّو** موجود ہوئے وہ **مُض** **فصل الحار مع الطار**

ح ط

مُضَظَّة اوترنا اور گرنا بنی اسرائیل کو یہ کہنے کا حکم ہوا تھا سو سپہوں نے
 اوس کے بدلے **مُضَظَّة** سمجھا تا کہا یعنی دے ہو گویوں سب پر یہ عذاب

مُضَمَّة نام ایک طبقے کا ہے کہ نہکانا جو دون کا ہے **مُضَم** ریزہ ہر چیز **مُضَم** کو

فصل الحار مع الظار **مُض** **فصل الحار مع العین** **مُض**

ظ ح ع

مُضَمِّن **مُض** **فصل الحار مع الفار** **مُض**

ح ف

مُضَمِّن **مُض** **فصل الحار مع الفار** **مُض**

مُضَمِّن **مُض** **فصل الحار مع الفار** **مُض**

فصل الحار مع القاف

ح ق

مُضَمِّن **مُض** **فصل الحار مع القاف** **مُض**

مُضَمِّن **مُض** **فصل الحار مع القاف** **مُض**

فصل الحار مع الالف

ح ک

مُضَمِّن **مُض** **فصل الحار مع الالف** **مُض**

مُضَمِّن **مُض** **فصل الحار مع الالف** **مُض**

فصل الحار مع اللام

ح ل

مُضَمِّن **مُض** **فصل الحار مع اللام** **مُض**

مُضَمِّن **مُض** **فصل الحار مع اللام** **مُض**

مُضَمِّن **مُض** **فصل الحار مع اللام** **مُض**

فصل الحار مع المیم

ح م

والے **خَائِرُونَ** نقصان پانی والے **خَائِرَةٌ** ٹوٹا پانی والے **خَائِعٌ** عاجز کرنے والا **خَائِعُونَ** عاجزی کرنے والے **خَائِعٌ** ڈرنے والے **خَائِعَةٌ** ڈرنیوالی **خَائِعَاتٌ** ڈرنیوالیاں **خَائِسِي** عاجز رہنے والا **خَائِسِينَ** تھکنے والی **خَائِصَةٌ** چنے ہوئے **خَالِصٌ** نر **خَالِصَةٌ** خاص **خَارِجٌ** نکلنے والا **خَارِجِينَ** نکلنے والے **خَائِعٌ** دھوکا دینے والا **خَائِفٌ** ڈراؤ **خَائِفُونَ** ڈرے وہ اور ڈرو تم پہلا صیغہ ماضی کا ہے اور دوسرا صیغہ امر کا صورت ایک ہی اور اصل الگ الگ ماضی کے اصل ساتھ فتح تے کے اور امر کی اصل ساتھ کسره نے کے **خَائِفٌ** ڈرے وہ **خَائِفٌ** ڈرنیوالا **خَائِفِينَ** ڈرنے والے **خَائِفَةٌ** چھپنے والے **خَائِفَةٌ** گذرنیوالی **خَائِفُونَ** تصور کرنیوالے **خَائِفَةٌ** تقصیر کرنیوالے **خَائِبٌ** نامراد ہوا وہ **خَائِبِينَ** ناامید ہونے والے **خَائِبُونَ** غامی اور ہونے کے **خَائِبَاتٌ** خانت کی دونوں نے (ث) **خَائِبَةٌ** دغا کرنیوالے **خَائِبِينَ** خانت کرنیوالے **خَائِبَةٌ** ویران پڑے **خَائِقٌ** پیدا کرنیوالا **خَائِقُونَ** بنانی والے **خَائِبِينَ** جمع کرنیوالے اور خرابی سب **خَائِفُونَ** گیسے **خَائِفِينَ** گیسے والے **خَائِفِينَ** چکنے والے **خَائِدُونَ** بچھے ہوئے **خَائِبٌ** بات کی **خَائِفِينَ** بچھے رہنے والے

فصل النخار مع البار

خب

خَبِيرٌ خبردار اور دانانا نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا **خَبْرٌ** آگاہی **خَبْرٌ** حال **خَبْرٌ** **خَبْرًا** چھپے چیز **خَبْتٌ** بچھو **خَبَالٌ** خزانے **خَبِيثَةٌ** گندی **خَبِيثَاتٌ** گندیان **خَبَارٌ** گندے کام **خَبِيثُونَ** گندی لوگ **خَبْتٌ** پلید ہوا وہ **خَبِيثٌ**

فصل النخار مع التار

خت

خَتْمٌ مہر ختم مہر کے اوسنے **خَتَامٌ** مہر جانی کی چیز **خَتَارٌ** بڑا چھوٹا **خَتَالِي** **فصل النخار مع التار** **خَتَامٌ** و **خَتِيمٌ** و **خَتَارٌ** و **خَتَالِي**

خغخ ف

الفین ۛ خالے ۛ فصل الخار مع الفاء ۛ

خفتم درے تم خفت ڈری تو خفت ڈرامین خفتے چہی چیز خفیتہ
چکے خفت ہکا کیا اوسنے خفان ہکے خفیف ہکا خفت ہکی ہولی

خ ق

خ ک

خ ل

فصل الخار مع القاف والکاف ۛ خالے ۛ

فصل الخار مع اللام

خلا اکیلا ہوا وہ خلوا اکیسے ہوئے وہ خلک گدزی اور اکی ہونی وہ خلوا

چوڑ دو تم خلاق حصہ خلاق پیدا کر نیوالا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے

خلق مخلوقات خلق پیدا کیا اوسنی خلقوا پیدا کیا اوہنوں نے خلقت

پیدا کیا تو نے خلقت پیدا کیا میں نے خلقنا پیدا کیا میں نے خلق پیدا کیا گواہ خلقوا

پیدا کئے گئے وہ خلقت پیدا کی گئی وہ خلق عادت خلقت سچے اور فرزند

نالائق اور قرن بعد قرن ہوا اور بفتحین یعنی فرزند لائق کہ آیا ہر خلف چہ چوڑا خلقوا

پچھے چوڑا اوہنوں نے خلقوا خلاف کیا تھے خلقوا پچھے چوڑے گئے وہ

خلفۃ ایک کے بعد ایک آئی والے خلیفۃ نائب خلائف نائب سب خلفاء

سردار سب خلائف مند خلدۃ دوستی خلیل دوست خلائل دوستی کرنے

اور مگر خلصوا الگ ہوئے وہ خلطوا ملایا اوہنوں نے خلطاء شریک ساہنی

لوگ خلد میں گے خلود میں رہنا ۛ فصل الخار مع الیم ۛ

خم شراب خم چادین خمط میوہ کڑوا خمس پانچواں حصہ خمستہ

پانچ مرد خمسین چاس ۛ فصل الخار مع النون ۛ

خلس چینے والی تاری خمر نیر سور خنازیر سورب خناس شیطان چینے والا

فصل الخار مع النواو
خوار آماز گائے کی خوف ڈر خوان بڑا غاباز خوالف پیچھے ہٹنے والا

خ م

خ ن

خ و

خَوَّلَ بَحْشًا وَسَيَّ خَوْلًا نَجَّشًا مَعْنَى خَوْضٍ بَاتِينَ بَنَانِي ۞
 فصل الحاء مع الهاء ۞ خالے ۞ فصل الحاء مع الیاء
 خَيْسِرٌ نَجِيٌّ أَوْ مَالٌ خَيْرَاتٌ نِيكِيَانٌ أَوْ نِيكٌ بَحْتٌ لَوْ كُ خَيْسِرَةٌ اِخْتِيَابٌ
 خَيْفَةٌ دُرٌّ خِيَامٌ دَيْرٌ خَيْطٌ دَمَاكَا أَوْ خَيْطٌ الْأَبْيَضُ صَبِغٌ صَادِقٌ أَوْ
 خَيْطٌ الْأَسْوَدُ صَبِغٌ كَاذِبٌ خِيَاطٌ سَوِيٌّ خَيْلٌ كَهْرٌ سُرٌّ أَوْ سَوَارٌ خِيَانَةٌ سَوْرٌ

خ و خ ی

باب الدال

فصل الدال مع الالف دَا وَ دَوْنَامٌ بَيْنِيْرٌ كَابَةٌ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ سَيِّ
 اِبْنَاكُ اَوْلَادِ يَهُودَا سَعَى عَلَيَّ نَبِيْنَا رَعِيْلِيَّةٌ دَهْلَامٌ دَابَّةٌ جَارِيَةٌ دَابٌّ
 عَادَتٌ اَوْ مَتَوَاتِرٌ بَلَا الْفَصَالِ دَابَّيْنِ دَوَاكِيٌّ دَسْتُوْرٌ سَعَى دَابِّرٌ بَيْتُهُ دَابِّرَةٌ خَطَرٌ
 اَوْ رُكُوْدٌ شَهْمَانٌ دَارٌ كَهْرٌ دَاعِيٌّ بَلَانِيُوْلَا دَامُوْا مَيْتٌ رَهَى دَهْ دَهْمَتٌ بَيْتُهُ
 دَاهِمٌ هَمِيْشَةً رَهَى دَالَا اَوْ اَرَامٌ بَانِيُوْلَا دَابَّوْمُوْنٌ هَمِيْشَةً رَهَى دَاهْمَةٌ نَابِزٌ
 هُونِيُوْلَا دَا اِنْ تَزْدِيْكٌ هُونِيُوْلَا دَا اَيْتُهُ تَزْدِيْكٌ هُونِيُوْلَا دَا اِخْرُوْنٌ دَابَّوْمُوْنٌ
 هُونِيُوْلَا دَا اِخْلُوْنٌ هَمِيْشَةً رَهَى دَا فِعْ هَانِيُوْلَا دَا فِعْ اُجْلَةٌ دَالَا اَوْ دَا فِعْ اُجْلَةٌ
 ۞ فصل الدال مع الباء ۞ دُبُرٌ بَيْتُهُ ۞

د ا

د ا ب

د ب

د ت د ث

د ج د ح

فصل الدال مع التاء وَ التاء وَ النَّارُ وَ النَّارُ وَ النَّارُ وَ النَّارُ ۞ خالے ۞
 فصل الدال مع الحاء ۞ دَحْوَرٌ دَاكِيٌّ كَعَى دَسَّ اِبْجَاهَا اَوْ سَيِّ

د و

فصل الدال مع الخاء

دَخَلَ بَهَانَةً اَوْ رُكُوْدٌ دَخَلَ بَيْتًا دَخَلَ اَنْدَرَا اَيَا دَخَلُوْا اَنْدَرَا اَيَا دَخَلَتْ اَيْدِي
 اَيُّ دَهْ دَخَلَتْ اَنْدَرَا اَيَا دَخَلْتُمْ اَيْدِي تَمَّ دَخَلْتُمْ جَاعٌ كِيَانَتِي دَخَلْتُ بَيْتِي كَعَى دَهْ دَخَلْتُ
 فصل الدال مع الال وَ الدال ۞ خالے ۞ فصل الدال مع الراء
 دَرَجَةٌ بَابٌ اَوْ مَرْتَبَةٌ دَرَجَاتٌ مَرْتَبَةٌ دَرَكٌ دَرَجَةٌ دَرَجٌ دَرَكٌ بَكْرٌ اَوْ مَطْبَعٌ

د و د و

د و

درستہ پڑھنا اور پڑھانا اور سوا پڑھنا اور نہ درست پڑھنا تو ہے درہم جو اتنی (ح) درمی چکے	
فصل الدال مع الزار ۛ خالے ۛ فصل الدال مع السین ۛ	دس
دس لوہے کے میخین دسے خاک میں ملایا اوسنے ۛ ۛ	
فصل الدال مع الشین وَالصَادُ وَالضَادُ وَالطَّارُ وَالظَّارُ ۛ	
فصل الدال مع لعین	دولت
دَعَا وَدَعْوَةٌ بَارِنَا دَعْوَى كَيْفَا دَعَى بَلَايَا اوسنے دَعْوَا بَلَايَا دُونِ لِي	دعوتوں
دَعْوَا بَلَايَا سَبَنِي دَعْوَتُمُ بَحَارَاتِنِي دَعْوَتُ بَحَارَاتِنِي دَعْوَى بَحَارَاتِنِي دَعْوَا بَحَارَاتِنِي	مثلاً
دَعْوَا بَحَارَاتِنِي دَعْوَا بَحَارَاتِنِي دَعْوَا بَحَارَاتِنِي دَعْوَا بَحَارَاتِنِي دَعْوَا بَحَارَاتِنِي	
فصل الدال مع لعین ۛ خالے ۛ فصل الدال مع الفار	دک
دَفَّ بَحَارَاتِنِي اَوْ جَوَّزْتُ اَوْ سَفَعْتُ لِعَيْنِي دَفَّ دُورًا وَفَعَمْتُ دُورًا كَيْفَا تَنِي اَوْ حَوَالِي كَيْفَا تَنِي	دک
فصل الدال مع القاف ۛ خالے ۛ فصل الدال مع الكاف	دل
وَكَلَّمْتُ كَرْنًا اَوْ كَرْنًا وَكَلَّمْتُ كَرْنًا وَكَلَّمْتُ كَرْنًا وَكَلَّمْتُ كَرْنًا وَكَلَّمْتُ كَرْنًا	
دُونِ دُكَّةً نَبْكَنَا ۛ فصل الدال مع اللام دُكُّوكِ دُكُّوكِ دُكُّوكِ دُكُّوكِ دُكُّوكِ	
دَلِيلٌ رَاهٌ دَلٌّ رَاهٌ بَنَانِي اوسنے دَلِّي اوتارا اور گرایا اوسنے ۛ ۛ	
فصل الدال مع لميم	م
وَمَمٌّ حُونَ دِمَا حُونَ سَبٌ وَمَمٌّ حُونَ سَبٌ وَمَمٌّ حُونَ سَبٌ وَمَمٌّ حُونَ سَبٌ وَمَمٌّ حُونَ سَبٌ	
رَاهِينَ دَمْرٌ بَلَاكٌ كَيْفَا اوسنے دَمْرٌ بَلَاكٌ كَيْفَا مَنِ دَمْرٌ بَلَاكٌ كَيْفَا اوسنے ۛ ۛ	
فصل الدال مع لنون	دن
دَلَّتْ نَزْدِيكٌ هُوَاوَهُ وَنِيَا نَزْدِيكٌ اَوْ زَلِيلٌ اَوْ رِيهٌ عَالَمٌ سَفَلَةٌ ۛ ۛ	
فصل الدال مع الواو	دو
دَوَانٌ سَوَايٌ اَوْ حَيْثُ اَوْ نَهْرٌ اَوْ دَوَانٌ اَوْ رُكُودٌ شَيْنٌ دَوَانٌ بَارِبَسٌ دَوَانٌ تَوَلَّتْ تَوَلَّتْ	

دہ
دی
بنا

فصل الدال مع الباء
دُہن تیل دیمان تپٹ دہاقت چلکنا دہر زمانہ فصل الدال
مع البیاء دیتہ خون بہا دینار اشرفی دین اومانہ دین مذہب اور
بدلا دینار گہر سب دینار رتنے والا اور پھرنے والا -

ب

باب الذال

ذا

فصل الذال مع الالف ذابہ ایک ڈان ڈانک یہ دو ڈاک
ڈاک یہ ایک مرد ڈاکلما یہ دو مرد ڈاکلم یہ سب مرد ڈاکلن
یہ تم سب عورتیں ذاب صاحب ذات صاحب اور حقیقت چیز
ذاللقون چکنے والے ذاللقہ چکنے والی ذاقا چکھا دونوں نے
ذاقوا چکھا انہوں نے ذاقث چکھا اوسنے ذاکرین یاد کر نیوالے
ذاکرات یاد کرنے والیان ذاریات ہوائیں اڑانی والیان
اور کھیرنے والیان ذاہبٹ جانے والا ذائب بھیڑیا :

ذب

فصل الذال مع الباء

ذت

ذبح ذبح کرنی کی چیز جیسے دنبہ ذبحوا حلال کیا انہوں نے ذبح
ذبح کیا گیا وہ ذباب کہی : فصل الذال مع التاء
والشار والجمس والحر والحاء والدال والذال : ذح

ذر
اصلہ ذرا کا ہے

فصل الذال مع الزاء

ذر چوڑ تو ذر وا چوڑ دم ذرہ کھیرنا اور دوڑنا ذرہ کھیرا اوسنے
ذرانما کھیرا منے ذرہ چوٹے ذریتہ اولاد ذریات اولاد سب
ذرع جی اور گز ذراع گز ذراعی دو گز فصل الذال مع الزاء والسين
الشین الصاد والصاد والطار والطار والوعین والوعین والفا والفا خالی

<p>فصل الذال مع القاف ذق چکھ تو</p>	<p>ذق</p>
<p>فصل الذال مع الکاف ۛ ڈگر نہ ڈگر آن دوز ڈگر آن مرد سب ڈکوڑ سب ڈگر یاد ڈگری نصیحت اور نصیحت دینی ڈگر یاد کیا اوسنی ڈگر وایا کیا اوہنوں نے ڈکرت یاد کیا تو نے ڈگر یاد کیا گیا وہ ڈگر خوب نصیحت دیا گیا ڈگر تو سجھائی گئے وہ ڈگر تم سجھائی گئے تم ڈگر بند ہی تو ڈگر تم پاک کیا تے ۛ</p>	<p>ذک ذکر ذکر</p>
<p>فصل الذال مع اللام</p>	<p>ذل</p>
<p>ذلول محنت کرنیوالے اور فرمانبردار ذلل فرمانبردار اور مہوار ذللتا تابعدار کیا ذلت نیچے کی گئی وہ ذل خجاری ذلتہ رسوائی فصل الذال مع لمیم ۛ ذمتہ عہد</p>	<p>ذم ذم</p>
<p>فصل الذال مع النون</p>	<p>ذن</p>
<p>ذنب گناہ (جمعہ) ذنوب گناہ سب ذنوب حصہ اور ذول بہر اسوا پانی کا</p>	<p>ذو</p>
<p>فصل الذال مع الواو</p>	<p>ذو</p>
<p>ذو صاحب ذوا بدوی دو صاحب ذواتا بدو کاتی دو مالک شنیہ نون گریب ذوات معنی صاحب کا ہے ذوقا چکھو تم ۛ فصل الذال مع الھاء ذہب سونا ذہاب جانا ذہب گیا وہ ذہبوا گئے وہ ذہبت گئے وہ ذہبنا گئے ہم ذہ یہ عورت مونث (ذہ) کا ہے اصل میں (ذمی) تہا یے کو پھیل</p>	<p>ذہ ذہ</p>
<p>فصل الذال مع الیاء خالی</p>	<p>ذی</p>
<p>باب الراء</p>	<p>ب</p>
<p>فصل الراء مع الالف ۛ روف بہت ہر بان رافۃ ہر بانے راعنا رعوت کرنیوالا اور رعایت کر بھو راعون رعایت کرنیوالے رعایت پہاڑیاں اور دیکھین مانند پہاڑ کے رآیا خواب دیکھنا رمی ہنود رمی دیکھنا او عقل ساسی دیکھا اوسنی رآو دیکھا اوہنوں نے رآت دیکھا اوسنی رآین دیکھا</p>	<p>را را</p>

فصل الذال مع الباء

ذہن تیل دیمان تچٹ دماق چلکنا دہر زمانہ فصل الذال
مع الیاء دیتہ خون بہا دینار اشرفی دین اومار دین مذہب اور
بدلا دینار گہر سب دینار رتنے والا اور پھرنے والا -

باب الذال

فصل الذال مع الالف ذایہ ایک ذان پڈنک بیہ دو ذاک

ذاک بیہ ایک مرد ذاکما بیہ دو مرد ذاکم بیہ سب مرد ذاکم

بیہ تم سب عورتیں ذاصحاب ذات صاحب اور صیقت چیز

ذاققون چکنے والے ذالقعہ چکنے والی ذاقا چکھا دونوں نے

ذاقوا چکھا انہوں نے ذاقث چکھا اوسنے ذاکرین یاد کر نیوالے

ذاکرات یاد کرنے والیاں ذاریات ہوائیں اڑانی والیاں

اور کھیرنے والیاں ذاہرٹ جانے والا ذائب بہیڑیا پڈ

فصل الذال مع الباء

ذبح ذبح کرنے کی چیز جیسے دنبہ ذبحوا حلال کیا انہوں نے ذبح

ذبح کیا گیا وہ ذباب کہی پڈ فصل الذال مع التاء

والشار والجمیم والحصار والذال والذال پڈ لچکت

فصل الذال مع الراء

ذرہ چوڑ تو ذرہ واچوڑو تم ذرہ کھیرنا اور دوڑنا ذرہ کھیرا اوسنے ذرہ

ذرانما کھیرا منے ذرہ چوڑے ذرہ تپہ اولاد ذریات اولاد سب

ذرع جی اور گز ذراع گز ذراعی دو گز فصل الذال مع الزاء والیسیر

الشین والصاد والصاد والطار والطار والوعین والوعین والفاڑ خالی

وہاں سے
آج کل تک

رُحْبِمُ بِرَسْمِ تَمَّ رُحْبِنَا بِرَسْمِ بِرِ الْبَايِنِ رُحْجِ كَانِبِنَا
رُحْبَتِ كَسْبِنِي كَسِي وَه رُحْبِلْ بِالْوَنِ رُحْبِلْ بِيَادِهِ رُحْبِلْ مَرْدِ
رُحْلَانِ دَوْمَرْدِ رُحْبَالِ بَيْتِ مَرْدٍ اَوْرِ بِيَادِ سَ لُوكِ ۞

فصل الرابع مع الحار

رُحْسِمُ بَرَّاشْفِقِ رُحْسَمِنِ بَيْتِ مَهْرَبَانِ رُحْحَارِ بَيْتِ مَهْرَبَانِ لُوكِ اَوْرِ زَمِ
رُحْبَتِ مَهْرِ رُحْسَمِ مَهْرِكِي اَوْسِي رُحْمِنَا نَجْمَانَا بِمَنْعِ رُحْمِ قَوَابِتِ رُحْبَتِ
كُشَادِهِ هُوِي وَه رُحَالِ اَتْرِنِي كِي جَلْبِه رُحْلِ بُو مَهْرِ رُحْلَتِ كِي رُحْقِ شَرَابِ لُحْنِ

فصل الرابع مع الحار

رُحَا وَرَمِ فَصْلِ الرَّارِ مَعَ الدَّالِ رُوْ پَيْرِ لَيْسِنَا اَوْ پَيْرِ دِي نَا رُوْ
پَيْرِ دِي اَوْ سِنِي رُوْ وَ اَوْ پَيْرِ اَنْهَوْنِ لِي رُوْ وَ نَا پَيْرِ اَمْ نِي رُوْ وَ اَوْ پَيْرِ
كُنِي وَه رُوْ وَ تِ پَيْرِي كُنِي وَه رُوْ وَ تِ پَيْرِي كُنِي رُوْ وَ اَوْ پَيْرِ وَ مِ
رُوْ وَ مِ دَا بَا رُوْ رِ يَارِ اَوْ رِ مَدِ رُوْ وَ فِ پِثِه پِچِه هُو اَوْ ه ۞

فصل الرابع مع الراء في خاله ۞ فصل الرابع مع الزاء

رُزَقِ رُوْزِي رُزَقِ رُوْزِي اَوْ سِنِي رُزَقِنَا رُوْزِي دِي سَمْنِي
رُزِقُوْ اَوْ رُوْزِي دِي كُنِي وَه رُزِقِنَا رُوْزِي دِي كُنِي هَم رُزِقِ اَوْ خُبِ
رُوْزِي دِي نِي دَا لَا ۞ فَصْلِ الرَّارِ مَعَ السِّينِ ۞ رُسُوْلِ پِغْمَبِ

رُسُلِ پِغْمَبِرِ وَنِ رِسَالَتِ پِنَامِ رِسَالَاتِ پِنَامِ سَبِ رَسِ
نَامِ كُوْنِي كَا سِي كَا اَوْ سَمِيْنِ اِيَكِ پِغْمَبِرِ كُو اَوْ نِكِي قَوْمِ لِي بِنْدِ كِي تِهِي

فصل الرابع مع الشين ۞ رُشِدِ صِلَاحِيْتِ رُشِيْدِ صِلَاحِ رِشَادِ سَيِدِي

رُشَادِ رَاهِ نِيَكِ فَصْلِ الرَّارِ مَعَ لُصَادِ ۞ رُصْدِ كِهَاتِ ۞ فَصْلِ الرَّارِ مَعَ
الرُّصَادِ ۞ رُضْوَانِ خُوشْنُوْدِي رُضْنِي خُوشِ هُو اَوْ مَرُضْنُوْ خُوشِ هُوِي وَه

ح

ر

ر

ز

س

ش

ص

ض

رَضِيَتْهُم يَجِي تَمَّ رَضِيَتْ لِي سِنْدِيَا مَبِينِي رَضِيَتْ مَن مَانَا رَضَا عَمَّة دَوْدَه بِلَانِي كِي
 مدت دو برس یا اڑھائی برس ۛ فصل الرار مع الطار ۛ رُطَب
 پکی کھجور رُطَب ہر تازہ ۛ فصل الرار مع الطار ۛ خالے

رط

ر

رع

فصل الرار مع لعین

رَعْدُ كَرَجٌ اَوْدَا اَوَّازُ فَرَشْتَه كِي جَو بَدَلِي كُو چلاتا ہے اور نام اوسی فرشتے کا ہی
 رَعْبٌ دَهْشَت رِعَاوٌ جِرْوَا ہے رِعَايَةٌ نَبَاهِنَا رِعْوَانِبَا اَو رِحْفَاظَت
 کی انہوں نے ۛ فصل الرار مع لعین ۛ رَعْدٌ بَيْت رَعْبٌ خَوَابُ
 اور توقع ۛ فصل الرار مع الفار ۛ رَفَعٌ اَو بَہَا اَو سِنِي رَفَعْتَا
 اُو بچا کیا یعنی رَفَعْتَا اُو بچے کئے وہ رَفِيعٌ اُو بچا کر نیوالا رَفْتٌ بِي پَرْدِ
 اُو رَفْحٌ رُفَاتٌ جَو رَا رَفِيقٌ يَار رَقْرَقٌ يَانَدِنَان رِفْدٌ اِنْعَامٌ

رع

رف

رق

فصل الرار مع القاف

رَقِيمٌ كَهْوٌ يَانَامٌ كَاؤُ كَا هِي يَامِيدَان كَا رَقِبَةٌ كَرْدَن رِقَابٌ كَرْدَن سَب
 رَقِيْبٌ كَا بِيَان رُقُوْدٌ سَوْنِيْوَالِي رُقِيْعٌ جِرْبِنَا رَقِ وِرْقٌ اَو ر
 مر اور قی نشور سے لوح محفوظ ہے ۛ فصل الرار مع الكاف ۛ
 رُكَّامٌ تَه بَتَه رِكَا ب اَو نَث رُكُوْبٌ سَوَارِي رُكْبَانٌ سَانَدِي سَوَا
 رُكْبٌ قَلْفٌ رَكِيْنَا سَوَارِ بُوْنِي دَو لَوْن رَكِيْبُو سَوَارِ بُوْنِي وَه سَب
 رُكْبٌ جَوْرُ دِيَا اَو سِنِي رُكْنٌ زَوْر رُكْعٌ رُكُوْعٌ كَرْنِيْوَالِي رِكْنٌ بِيْنَكٌ فَضْلُ الرَارِ
 مع اللام ۛ خالی ۛ فصل الرار مع الميم ۛ رَمَضَانٌ نَام رُوْزِ كِي
 مہینے کا ہر ریح نیزی رَفْرَا اَشَارَه مَاتہ اَو سَرَا اَو اَنكَبِه سے رَمَادٌ كَبِدٌ مَسِيْمٌ خَاكٌ بَسِيْدٌ رَمَانٌ اِنَا
 رَمِيْ بِيْنِكَا رَشِيْتٌ بِيْنِيَا تَوْنِي فَضْلُ الرَارِ مَع لِنُونٌ بِنَخَالِي ۛ فَضْلُ الرَارِ مَع الْوَاوِ ۛ رُوْحٌ جَا
 اور نام حضرت جبریل کا ہی رُوْحٌ مَبِيْنٌ اَو رَحْمَتٌ رُوْحٌ شَامٌ رُوْمٌ سُوْلُوْكَ اَو سِنِي بِيَارِ رُوْبٌ اَكٌ مَبِيْرٌ مَبِيْرٌ رُوْحٌ

رک

رم

رو

خوف روضۃ ایک باغ روضات باغون روتید جہلت دے تو

فصل الرابع مع الہار

رمان کرور کہنا زمین گرو کیا گیا زمینہ گرو کے گئے زمینان پیر زاد
 زمینانینہ دنیا چوڑنی رتب زمینہ درنا زمینہ ہم را وہ زمینہ قوم اور بہانی
 زمینق سرچہ بنا **فصل الرابع مع الیاء** پیرچ ہوا ریاچ ہوا میں ریاچ
 فرزند اور خوشبو اور نام ایک گہانس خوشبو کا شاہ سپر عم کہتے ہیں ریش
 ریب شک اور گردن زمینہ شک ریا راسد کا کام لوگون کی کہانیکے واسطے کرنا ریب

باب الزار

فصل الزار مع الالف زانی مرد بدکار زانیتہ عورت بدکار زادوتشہ
 زاد بڑا یا اوسنی زاد و بڑا یا ادہون نے زادت بڑے وہ زالت زہے
 زالتا زائل ہووین دونون یعنی زمین و آسمان زاجرات ڈانٹنے والیان
 زارحون کہیتی کرنیوالے زاع پیر نامو اوہ زانخو اہیرے ہوئے وہ زانخت
 وہ زایدین بزار ہو نیوالے زامق بی نور ہو نیوالا **فصل الزار مع الباء**
 زبانیہ پیادہ جو متعین ہیں دوزخ پر اونس ہیں زبد پین اور جہاگ پانی عزیز
 زبر تختیان زبور نام کتاب داؤد علیہ السلام کا ہے **فصل الزار مع التاء**

والمشار بہ خالی **فصل الزار مع الجیم**

زجاجہ شیشہ زجر جہر کن زجرۃ ایک جہر کن **فصل الزار مع الحاء**
 زخخج سر کا یا گیا وہ زخف لڑائے **فصل الزار مع الخاء**
 زخرف سونا اور سنگار **فصل الزار مع الدال** **فصل الزار مع الراء**
 زمینے زو زیادہ دے تو **فصل الزار مع الذال** خالی
فصل الزار مع الراء

رہ
 ری
 با
 زا
 زب
 زت
 زٹ
 زج
 زح
 زخ
 زد
 زد
 زر

زَرْقٌ نَيْلٌ زَرْعٌ كَهَيْتِي زَرْوَعٌ كَهَيْتِيانِ زَرْعٌ كَهَيْتِي كَرْنِيوَالِ زَرْابِي
بِهَائِي زَرْوَعٌ زِيَارَتِ كِي تِنِي ۞ فَضْلُ الزَّارِ مَعَ الزَّارِ وَالسَّيْنِ
وَالسَّيْنِ وَالصَّادُ وَالضَّادُ وَالطَّارُ وَالطَّارُ ۞ خَالِ

ز ز زس
ز ز زس
ز ز زط
ز ز زع

فضل الزار مع العين

زَعْمٌ كَمَا نَزَعْمُ كَمَا نَزَعْمَتْ كَمَا نَزَعْمَتْ كَمَا نَزَعْمَتْ كَمَا نَزَعْمَتْ كَمَا نَزَعْمَتْ
فَضْلُ الزَّارِ مَعَ الغَيْنِ ۞ خَالِي ۞ فَضْلُ الزَّارِ مَعَ الفَارِ

ز ز زع
ز ز زف
ز ز زق

زَرْقِي نَزَقِي كِي آواز اور پہلا چلانا اوسکا ۞ فَضْلُ الزَّارِ مَعَ القَافِ
زَرْقُومٌ سَيْنِدُ ۞ فَضْلُ الزَّارِ مَعَ الكَافِ ۞ زَرْقِي تَا بَالِدُ لِقَصْرِ

ز ز زک

نَامِ اِيكِ بَغِيْبِرِ كَا هِي عَلِي ثَبِيْنَا وَحَلِيْبَةُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ زَكَاةٌ پَاكٌ كَرْنَا اَوْ مَالِ
اَوْ سَكَا حَصْدِيْنَا زَكِي پَاكٌ هُوَا وَهُ اَوْ سَنُوَا اَوْ سَنِي زَكِي مَرْدِ پَاكٌ زَكِيَّةٌ

ز ز زل

سَتَهْرِي اَوْ عَوْرَتِ پَاكِيْرَةُ زَكِيَّةٌ پَاكٌ كِيَا اَوْ سَنِي ۞ فَضْلُ الزَّارِ مَعَ اللَّامِ
زَرْقَالِ جَهْرٌ جَهْرَانَا زَرْقَالَةُ هُوَ نَجَالٌ زَرْقَالُوَا هَلَانِي كِي وَهُ زَرْقَالُ كِي هَلَانِي كِي

ز ز زح

زَرْقَالُ مَرْدِي هِي مَرْقِي مَرْقِي مَرْقِي مَرْقِي مَرْقِي مَرْقِي مَرْقِي مَرْقِي مَرْقِي مَرْقِي مَرْقِي
فَضْلُ الزَّارِ مَعَ المِيمِ

ز ز زز

زَرْقِي (ف) زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي
زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي

ز ز زح

فضل الزار مع الواو

زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي
زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي

ز ز زح

زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي زَرْقِي
فَضْلُ الزَّارِ مَعَ اليَا

ز ز زح

زید نام حضرت کے مہنے کا ہے بیٹے عارثہ کے زلیخ کے زینتہ سنکار اور گہنا زین سنوار
 اوسنے زینتہ سنوار اور ہون نے زینت سنوار اوسنی (ث) زینت سنوار
 زین سنوار گیا وہ زینت نام درخت زیتون کا ہے زینت نام ایک
 درخت میوہ دار کا ہے زینت نام زیتون کی تیل کا ہی زینت جا گیا ہے

باب السین

س یہ حرف ہے معنی اوسکے قریب کے ہین اور فعل مستقبل پر آتا ہے
 قال اللہ تعالیٰ سکنستد رجھو من حیث لا یعلمون

فصل السین مع الالف

سارق چرائیوالا سار فون چرائیوالے سار قہ چرائیوالی ساعہ زنا
 تہوڑا اور اہل نجوم کے نزدیک اڑ مائی گہری ہے اور الساعہ معرف
 باللام بمعنی قیامت کے ہے سائبہ ساند جاہلیت میں اونٹنی کو منت
 کر کے بتونکے نام سے آزاد کرتے اور اوسکو اوسکے اختیار پر چوڑ دیتے اور
 بعضوں فی کھا ہے کہ جب اونٹنے دس بچے جنتے اور سب مادہ ہوتے تب
 اوسکو چوڑ دیتے اور اس پر سوار ہوتے اور اوسکا دودھ نہ پیتے مگر بچہ
 یا جہان اور جب مرئی تب گوشت اوسکا مرد عورت سب کھاتے سادات
 سردار سب سامر کھانی کہتے والا سامر مرئی نام ایک سنار کا ہے
 بنے اسرائیل سے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ایک گہر تھا کرمان سی
 قصہ اوسکا عین قرآن میں مذکور ہے ساحل کنارہ سال پوچھا
 اور مانگا اوسنے سالوا پوچھا اور ہون نے سالت پوچھا تو نے
 سالتہم پوچھا پوچھا متنے سالت پوچھا میں سئل
 پوچھا گیا وہ سئلوا پوچھے گئے وہ سلت پوچھی جاوے

ب

س ا

سَمُولٌ ما کھا گیا وہ یعنی مراد اور مطلب سائل بوجھنے والا اور مانگنے والا
 سَائِلِينَ مانگنے والے سَائِلَتْ بوجھاؤ سنے سَائِرٌ بڑا کیا
 اوسنے سَائِلَتْ بڑا کیا اوس عورت نے سَائِرٌ جادو گر ہے
 سَاحِرَانِ دو جادو گر یعنی موسے و مارون سَاحِرُونَ جادو گر
 سَائِرَةٌ میدان صاف سابق آگے ہونے والا سَائِلُونَ
 آگے ہونے والے سَائِلَاتِ آگے ہونے والیاں سَائِلُوا آگے ہونے
 اور سبقت کر وتم سَائِحُونَ روزہ رکھنے والے اور عبادت کرنے والے
 سَائِحَاتِ روزہ رکھنے والیاں سَاجِدٌ سجدہ کرنے والا
 سَاجِدُونَ پیشانی گھسنے والے سَافِلٌ نیچے ہونے والا -
 سَافِلِينَ نیچے ہونے والے سَارِبٌ گلیوں میں پھرنے والا
 اور ظاہر ہونے والا وہ سَائِعٌ مزہ دار سا دس چھپا سا گیا
 اور سیر کی اوسنی سَائِيٌّ برابر کیا اوسنی سَائِكُنْ قرار پکڑنی والا
 سَاحَةٌ آنکھ سَائِعَاتِ زرمین کد وہ سَاحِرِينَ ہنسنے والا
 سَاحِمٌ قوعہ ڈالا اوسنے سَائِيٌّ نیچے سے ٹانگنے والا سَاقِ
 پنڈلی اور سختی سَاقِيٌّ دو پنڈلیاں سَاقِطٌ گر نیواں سَائِدُونَ
 کھیلنے والے اور سر رو سجانے والے سَائِلُونَ اچھے بھلے
 سَائُونَ بہونے والے سَائِحَاتِ کشتیاں یا فرشتے ہر نیواں
 یا ارواح سَائِرٌ عواد و روم ہے فصل السین مع البار
 سَبْحَانٌ کیا پاک ہے سَبْحٌ پیرنا اور گار و بار میں مشغول ہونا
 سَبْحٌ پاکی سے یاد کیا اوسنے سَبْحٌ سَبْحٌ کی ادھون نے سَبْحٌ
 پاکی بول تو سَبْحٌ سَبْحٌ کی بول تو تم سَبْحٌ درندہ سَبْحٌ سات غورین

۷۲
 صحیح
 ابن عربی

فصل السین مع الذال خالی

فصل السین مع الراء ۛ ستر بید چپا ستر بزر چپے بید ستر خوشی
 اور فراخی ستر خوشی ستر تختے ستر سرب سرب ستراب ریک ستر اوق
 معرب ستر اپردہ ستر قچوایا اوسنی ستر تی پانی کا چشمہ ستر اج چراغ اور آفتاب
 ستر بیج جلد ستر اع دور نیوالے ستر ایل کرتے ستر مد ہمیشہ ستر اح رخصت ہنی
 ستر خوا رخصت دو تم ستر دکڑیان اور زرہ بٹا ۛ فصل السین مع الراء
 والسین و الشین والصاد والصاد ۛ خالے
 فصل السین مع الطار ۛ سطحت بھالے گئے وہ ۛ

س ذ
 س ر
 س ز
 س س ن
 س س ن
 س ط

فصل السین مع الطار ۛ خالے ۛ فصل السین مع العین

سے محنت اور کوشش سے دور اور کوشش کی اوسنی ستر اگوسا
 کی اونہون نے ستر کسادگی اور فراخی ستر نیک نیک نیک ستر بعد و نیک نیک
 کئے گئے وہ ستر دیوانے ستر دوزخ اور جلا نیوالی ستر رش روشن
 کی گئی وہ ۛ فصل السین مع الغین ۛ خالے ۛ

س س ع
 س خ
 س ف

فصل السین مع الفار

سفر نادانی سفارہتہ بیوقوفی سفیر نادان ہوا وہ سفیر نادان سفیر
 احمق سب سفیر کشتی سفر راہ چلنے سفر لکھنے والے سفر بہت نیچے ۛ

فصل السین مع القاف

سقا پانی پلانا اور پانی پلانا کاس سقا پانی پلایا اوسنی سقا
 پانی پلایا تو نے سقا پانی پلایا ہمنے اور جلا یا ہمنے سقا پلایے گئے وہ سقا
 پینے کی باری سقا بیمار سقا دوزخ کا طبقہ سقا گرس وہ سقا ڈالا گیا وہ سقا چت
 سقا چتین ۛ فصل السین مع الکاف ۛ سگر سگر

س ق
 س ک

اور نشی کی چیز جیسے نیند سکرۃ بیہوشی سکاری بیہوشی لوک
 سکرۃ بیہوش کی گئی وہ سکرۃ راحت اور رحمت سکرۃ آرام
 بکرا اوسنی سکرۃ بے تم سکرۃ آرام اور چین سکرۃ چین چرسے
 سکرۃ تیرا اور چپ ہوا وہ : فصل السین مع اللام :
 سکرۃ نام ایک پیغمبر کا ہے بیٹے داؤد کے علی نبینا وعلیہما السلام
 سلم مسلمان اور صلح کرنی سلم گردن رکھی اوسنی سلم نگاہ
 رکھا اوسنی سلم سپرد کیا تھے سلم بن ابی عیب اور تندرست
 سلام دعا اور تحیۃ سلمو اسلام کر وہ سلم سیر ہی
 سلم تعیین کیا اوسنی سلطان غلبہ اور وکیل سلم لہ خلاصہ
 سلم جلا اور دخل کیا سلم کتا داخل کیا منے سلم اکل
 سلم آگے ہوا وہ سلم تیز کیا اور ستا یا اونہوں کی سلم
 زنجیر سلاسل زنجیرین سلموی نام چڑیے کا ہے بانیکے کنارے
 رہتی ہے اوسکو لوا کہتے ہیں سلم بوجہ تو سلم بیل نام
 ایک چشمی کا ہے جنت میں : فصل السین مع لم
 سما آسمان سموات آسمان سب سمع کان اور سنا سمع
 سنا اوسنی سمعوا سنا اونہوں نے سمعت سنا اوسنی سمعتم
 سمعتموا سنا تھے سمعنا سنا منے سمع سنے والا سمعوا
 جاسوس اور خوب سنے والے سمی مہنام کے نام رکھا اوسنی
 سمی مہنام رکھا تھے سمیت نام رکھا تھے سموا نام رکھا تھے
 سمین تے یعنی ہونے ہوئے اور موٹے سمین موٹے (ج)
 سمک بندی سم سورج اور سوئی کا ناکا سموم ہوا گرم

سل

سکرۃ
 مشکل
 جیسائی

سم

سن

فصل السین مع لنون

سُنْدُس نام ہے جتنے کپڑے کا بہت باریک سُنا روشنی اور گوند
بجلی کے سُنتے اونگہ سُنتے برس سِنین برس سب اور مخط
کے برس سُنتے طریقہ سُتن طریقے اور دستور سب سِن
سُنبل بال یعنی خوش سُنتے ایک بال سنابل سُنتے خوش

سو

فصل السین مع اللواو

سَوَاع نام بت کا ہے کہ قوم توح کی اور کھورت کی صورت بنا کے پوجتی
ہے سَوَار برابر اور بیچ سَوَا راست اور جہوار سَوَمی سیدھا اور برابر
اور دست سَوَمی برابر کیا اوسنی سَوْنیت برابر کیا میں نے اور دست
بنا یا میں سَوُر بالفتح عیب سَوُر عم اور بدی اور ہر آفت سَوُر می بہت
بری مراد اوس سی جہنم سَوُرۃ عیب اور عورت غلیظہ سَوَات عیب سَوَل
فریب دیا اور سنوارا اوسنی سَوَلت ستوارا اور فریب دیا اوسنی سَوُرۃ کُرا
قرآن کا کہ اسکا اول اور آخر مجموعہ سَوُر سورتین سَوُر دیا سَوُق
بازار اور پنڈلیان جمع ساق سَوَط کوزا اور عذاب سَوَال بوجھنا اور مانگنا
سَوَف یہ حرف ہے کہ خاص مضارع پر آتا ہے اور اوسکو معنی
استقبال کے کرتا ہے سَوَد کالے پ: فصل السین مع الھاء ر با
سَوُول زمین نرم پ: فصل السین مع الیاء پ: سِنِمَات شان
سید سر دلد اور پیشوا سیر چنا اور پہرنا سیر فرا پہر دم سِیَارۃ پہر نیوالا اور
قافلہ سیرت جلائی گئی وہ سیرۃ عادت اور خصلت سِنیل بہاؤ اور
تالاب سِنیق جلا یا گیا وہ سِنِحوا پہر دم اور چلو تم سِنی پدی سِنیحۃ بڑا
سِنِمَات بُریمان سِنی بُر ایک سِنیت برہمنی سِنین اور سِنین اور سِنین

سہ

سہی

ہیں البتہ شام میں کہ محل مناجات حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا تھا

باب الثین

ب
ش ا

فصل الثین مع الالف پشاور چاہا اوسنی شئت چاہا تو نی شتہما
چاہا تم دونوں نے شتم چاہا تم نے شتہنا چاہا ہم نے شان کام اور حال شانی
و شمن شاکر احسان ماننے والا شاکر فون شکر کرنوالے شاہد گواہ شاد فون
گواہ سب شاکر فون پینے والے شاور شورہ کرتو شاکلہ عادت اور ریش شاکر
اوپر لگنے والے شاعر محضات بلند شاعر مشہور ہے شاکر شریک تو شاعرین
سفارش کرنیوالے شاطی کنارہ شاقوفا مخالفت کے اونہوں نے

ش ب ش ت

فصل الثین مع الباء پشبتہ مشتہ کیا گیا وہ پفضل الثین مع التا

شنتے پراگندہ جمع (شیتہ) شتتا ب جارے کے دن پ

ش ث ش ج

فصل الثین مع التاء پخالی پفضل الثین مع الحمیم

شجر درخت شجرۃ ایک درخت شجر اختلاف ہوا اور جھگڑا ہوا پ

ش ح

فصل الثین مع الحاء پشخ بخل اور حرص شخوم چریمان پ

فصل الثین مع الخاء پخالی پفضل الثین مع الدال

ش د
ش و

شدید سخت اور زور آور شداد زبردست اور زور دار سب شد و مضبوط کیا

ش ذ

ہینے شد و مضبوط کر دتم پفضل الثین مع الذال پخالی

ش ر

فصل الثین مع الراء

شترک سا جہا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو سا جہی بنا نا شتریک سا جہی

شترکار بہت سا جہی شتر و ایچا اونہوں نے شراب پینے کے چیر شتر ب حصہ

پانی کا شتراب پینا شتر ب پیا اوسنی شتر لوبا پیا اونہوں نے شتر مقرر کیا اور

راہ ڈالی اوسنی شتر خوا شہیرا یا اور راہ ڈالی اونہوں نے شتر لعتہ راہ سیدی کی صنعت

اسکا خدا ہی اور اسکی ساتھ اپنی کتاب میں تصریح فرمائی ہے شریعتہ قاعدہ شرع اور دستور دین شریعت پانی پر ظاہر ہو نیوالا شریعت منزادی اور بہکادے تو شریعت بد اور بدتر شریعت جگاریان شرح کہولا اوسنی رغوۃ جماعت شریعتی مشرقی طرف شریعتیہ

ش ش ش
س س س
ش ش ش
س س س

آفتاب نکلنے کے طرف : فصل الشین مع الزار والسین وائین
والصاد والضاد : خالے : فصل الشین مع الطار
شطر طرف شطط احمق اور نادان شططاً پہنا اور خوش

ش ش ش

فصل الشین مع الطار : خالے : فصل الشین مع العین
شعر کلام موزون منظوم شعر شعر کہنے والے شعراء شانیان اور
قربانیان اور عبادتین شعیب نام ایک پیغمبر کا ہے علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
شعب شاخین اور جماعتین شعوب جماعتین بڑی شعری نام ایک تار کے
ہے کہ اوسکو جاہلیت میں بوجتے تھے : فصل الشین مع الغین :
شغف زلفیتہ کیا اوسنی مشغل کام اور عدم فرصت شغلت مشغول اور باز کرنا

ش ش

فصل الشین مع الفاء

شفاعة سفارش اور بخشوانا شفیع سفارش کرنیوالا شفعا سفارش کرنیوالے
شفع جوڑا شفا کنارہ شفا آرام شفق شام کی سرخی شفتین دو ہونہہ

ش ش

فصل الشین مع القاف

شقوقہ بدبختی شقوا بدبخت کئے گئے وہ شقی بدبخت شقاق صدا اور لالی
شوق سختی شوق پہنا : شققنا پہاڑا بننے شقۃ سفر دور دراز

ش ش

فصل الشین مع الکا

شکر حق ماننا شکر حق مانا اوسنے شکر حق مانا تنے شکر حق ماننا شکر حق
ماننی والا اور قدر دان شکر مانند شکر شبہ اور دہوکا : فصل الشین مع اللام

ش ش

ش م

فصل الثین مع الیم

شمس سورج شمال بائین طرف شمال بائین طرفین

ش ن ش

فصل الثین مع النون

شونان دشنی فصل الثین مع الواو شوکة قوت اور کانا اور ذات الشوکت بسنے فوج کے ہے شوب بلاو شورمی شورہ شوے ہنا اور کلیے شواظ شعلے صاف بی دہوئین کے

ش و

فصل الثین مع الہاء

شہادۃ گواہی شہادات گواہیان شہید گواہ شہیدین دو گواہ شہادا

بہت گواہ شہود گواہ سب اور حاضر ہونوالے شہید گواہی دی اوسنی اور حاضر

ہوادہ شہد و گواہی دی اوہوں شہد تم گواہی دی تہنی شہد تا گواہی دی تہنی اور

ہوئے ہم اور حاضر تہ ہم شہوۃ جی جاننا اور خواہش جمعہ شہوۃ غداہین

شہیق دہاڑنا شہاب شعلہ آگ شہب شعلہ شہب رینا شہرین

دو چہینے شہور بہت مہینے فصل الثین مع الیاء پشہب بڑنا پ

شہیۃ سفید بال شہے چیز شیطان دیو یعنی راکس جمعہ شیطانین

سرکش بشہقہ رفیق شہیق فرق شہیۃ داغ دہبا شہیق بڈنا شہیق بڈ

ش ی

باب الصاد

ب

ص ا

فصل الصاد مع الالف پ ص حروف مشابہات سے ہے

صاحج ایک نیک آدمے صابحین دو نیک مرد صابحون نیک مرد

سب صابحات نیک حورین صابمون ستارہ پوجنے والے

نام ایک قوم کافر کا ہے کہ اپنے زعم میں ابراہیم علیہ السلام کے

تابع سمجھتے تھے اور معنی لغوی اوسکے ایک دین سے دوسرے دین

کی طرف پہنچنے والے صادق صاباد قون ہے لوگ صابوقات

سچی عورتیں صبا پر صبر کر نیوالا صبا پر خون صبر کر نیوالے صبا پر تہ سہار نیوالے
 صبا پر ات سہار نیوالیان صبا پر فرا السین سہار و تم صبا متون چپ
 رہنے والے صاحب رفیق اور یار صاحبی دویار صبا چہ عورت
 جو رو صاحب ساتھ اور رفاقت کر تو صبا عروون خوار ہونے والے
 صبا قون قطار باندھنے والے صبا قات صف باندھنے والیان
 صبا مینین روزہ رکھنے والے صبا مبات روزہ رکھنے والیان
 صبا قات گھوڑے تین پانوں پر کھڑے رہنے والے اور اوپر کنارے
 سم چوتھے پانوں کے ٹیکنے والے صبا لہنچنے والا اصل میں صالی تھا
 ہی تغلیل سے گری صبا لہنچنے والے صبا حہ آواز تند صبا حہ
 موت اور بھلے اور عذاب اور آگ کہ آسمان ہی بر سے صبا رہین توڑ نیوالے

۴
 صبا میں
 صبا چہ
 صبا لہنچنے
 صبا لہنچنے

فصل الصاد مع الباء

صبر سہار نا اور محنت اوہٹانے صبر محنت اوہٹانی اوسنی صبر فرا
 محنت اوہٹانی اوہٹون نے صبر تم سہارا تے صبر تا صبر کیا مہنی
 صبا ر بڑا سہار نیوالا صبا غجوجی اوسنی صبا ح اجالا ہونا
 صبا غ سالن صبا غ رنگ صبا غ ڈان صبا غ ڈالا اوسنی صبا غ
 ڈالا مہنے صبا غ ڈالے گئے وہ صبا غ لڑکا ۴ فضل الصاد
 مع التاء والٹاء والحاء ۴ صبا غ خالی ۴ فضل الصاد
 مع الحاء ۴ صبا غ کتابین صبا غ رکابان

صبا ب

صبا ح

صبا ح

فصل الصاد مع الخاء

صبا غ ہتر ہتر صبا غ ہتر ہتر
 ۴ فضل الصاد مع الدال ۴ صبا غ صدق ۴

صبا ح

کیا اور سنی طوائف کو ان کرنے والے بنے **فصل الطائر مع الہبار** پر
 طہر یا ک کیا اور سنی طہر یا ک کر تو طہر یا ک کر دو تم دونوں طہر یا ک کر نیوا

فصل الطائر مع الیاء

طین نے طے لپیتا طیب پاکیزہ اور حلال بی شبہ طیبون
 پاک لوگ طیبہ پاکیزہ طیبات پاکیزہ چیزیں طیر جریا

باب الطائر

فصل الطائر مع الالف پر طائر کہلا جے پردہ اور نام ہے

اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسمی حسنی سے طائرین غالب ہونے والے

اور زبردست سب طائیر کہے اور آنکھ بچھے ہوئے طائیر واپستی کی

ادھنوں نے ظالم بی انصاف طالمون جسم لوگ ظالمہ سنگ

ظالمین گمان بد کر نیوالے **فصل الطائر مع الباء**

والتاء والشاء والجبیم والحار والحار والذال و

الذال والراء والزار والین ولشین والصاد ولہضاً

والطار والطار پر کہا خالی **فصل الطائر مع العین**

ظعن سفر اور چلنا **فصل الطائر مع الحین** پر خالی

فصل الطائر مع الفاء

ظفر تاخن **فصل الطائر مع القاف** والکاف پر خالی

فصل الطائر مع اللام

ظلم بی انصاف اور ستم ظلم بی انصاف کی اور سنی ظلموا بی انصاف کے

ادھنوں نے ظلمت ستم کیا اور سنی ظلمت ستم کیا یعنی ظلمت

بی انصاف کی میں ظلمت بی انصاف کی میں ظلم ستم کیا گیا وہ ظلم ستم کے گئے

ص ذ

ص ر

ص ز ص س

ص ش ص ج

ص م ص ط

ص ظ ص ع

اس طرح ابدال آباد تک صَعُو و بلندی اور نام ہے پہاڑ کا دوزخ میں صَعِيق پہنچتا
ہونا صَعِيق پہنچنا ہوا وہ ہے **فصل الصاد مع الغین** :
صَعِيق ہونا صَعِيقہ چہرے صَعَار خرابے اور ذلت صَعَتْ ٹہرے ہونے

ص ع

فصل الصاد مع الفاء

ص ف

صَفْرار زرد موٹا صفر کا ہے صُفْر زردیان صَفَا نام ہے ایک پہاڑ کا
صَفْوَان پتھر برابر ہوا رکھنے صاف صُفْح کنارہ بکڑنا صَفَق تھار صَفْصَف پتھر میدا
فصل الصاد مع القاف : خالی ہے **فصل الصاد مع الکا ف**
صَكْت پیٹے وہ ہے **فصل الصاد مع اللام** : صَلَوٰة نماز
اور دعا اور رحمت صَلَوَات نمازین اور شاہین صَلَوَات کناس
یہودوں کے یعنی اونکی عبادت خانے صل میں (صَلُوْتَا) تھا لفظ عبرانی صَلَّے
نماز پڑھے اوسنی صَلَّ نماز پڑھ تو صَلُّوا درود بھیجو تم (فی قولی تعالیٰ
صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا التَّلَامِہ اور لاؤ اور بیٹھاؤ (كقوله تعالى ثُمَّ الْجَحِيمِ
صَلُّوا) صَلُّوا دار پر کہنیا او ہون نے صَلَّد سخت اور صاف صَلَّب
پیٹھ کی ڈھری صَلَّح موافقت صَلَّح نیک ہوا وصلصال کہنیا نیوالا صِلے پہنچے

ص ق

ص ل

ص م

فصل الصاد مع المیم
صَمَد نراد ہار یعنی بے نیاز صَمَّ بہرا صَمَّو اہرے ہوئے وہ ہے :

ص ن

فصل الصاد مع النون

صُنْع صنعة بنانا اور کاری گری صَنَعُوا بنایا او ہون فی صِنْوَان
جڑے یعنی ایک جڑ سے دو درخت نکلے ہوئے **فصل الصاد مع الواو**
صَوْر زینگا اسرائیل علیہ السلام کا صُوْرَة شکل صُوْر شکیلین صَوْر
شکل بنائی اوسنی صَوْر نیا شکل بنائی ہے صَوَاع نام ایک نیائی کا ہے

ص و

جکو صاع کہتے ہیں یا سو ای صاع کہ ہے اور جام کو بھی کہتے ہیں جنوم روزہ
صواعق بھلیان صواعق قطار باند بننے والے صنوت آواز صواب
درست اور ٹھیک بات صواعق عبادت خانے راہ کے فضل الصاومع الہا
صنصر سسرال فضل الصاومع الہا ربہ صیغنی قلع اور محل اور جو چیز کو آوے
پناہ لیون صیتب مینہ صید شکار صینچہ صعا آواز سخت صیف گرمی ایام صیم روزہ

صہ

صی

باب الضاد

ب

فضل الضاد مع الالف : ضاحک ہنسنے والا ضاحک ہنسنے والے
ضائر بگاڑنیوالا ضائرین بگاڑنیوالے ضات گمراہ ضالون راہ ہونے
والے ضان بیڑ جکے بال ہوتی ہیں ضامراوٹ لاغر ضاق تنگن ہونا
ضاققت تنگدل ہونی وہ ضائق تنگدل ہونیوالا : فضل الضاد
مع الباء : ضبح ہانپنا : فضل الضاد مع التاء والثاء والجمیم

ض ا

فضل الضاد مع الجار

ض ح

ضحی دھوپ بھلنے کا وقت ضحکت ہنسنے وہ فضل الضاد مع الخاء : خا

فضل الضاد مع الال

ض د

ضند مخالفت : فضل الضاد مع الال : خالے

فضل الضاد مع الراء

ض ر

ضمر تکلیف اور سختی اور بد حالی ضمر اور سختی اور محنت ضمر : ضمر نقصان
ضمر ارصد یکدیگر ضمر یغ نام ہے ایک کہاں کا نئے دار کا کہ سوائے
اونٹ کے اور کوئے نہیں کہاتا ہے اور جب تک سبز رہتی ہے اسکو شبرق
کہتے ہیں ضرب مارنا اور چلتا اور مثل بیان کرنی اور ملانا ضرب
مارا اور بیان کیا اوسنے ضرب لہوا مارا اور ہون لے اور چلے وہ اور بیان کیا

اور ہونے نے ضَرْبِ بَیِّنٌ مارا تھے ضَرْبِ بَیِّنٌ مارا ہے ضَرْبِ بَیِّنٌ بیان کیا گیا
ضَرْبُ لُجُوبِ اَبِیَانِ کئے گئے وہ ضَرْبِ بَیِّنٌ بیان کی گئی وہ فصل الضاد
مع الزاء والسين والشين والصاد والضماد والطاء والظاء

مزع

فصل الضاد مع العين

ضَعُفٌ ناتوانی اور سستی ضَعْفٌ کمزور ہوا وہ ضَعُفٌ کمزور ہونے وہ
ضَعِيفٌ سست اور ناتوان ضَعْفَاءٌ کمزور سب ضِعَافٌ ناتوان
سب ضِعْفٌ مانند اور دو مثل ضِعْفَيْنِ دُوکُنَا ۛ ۛ
فصل الضاد مع الغین ۛ ضِعْثٌ جہازو ۛ

مزغ

مزف

فصل الضاد مع الفاء

ضَفَادِعٌ مینڈکین ۛ فصل الضاد مع القاف والکاف خالی

مزل

فصل الضاد مع اللام

ضَلَالٌ گمراہی اور ناہمی ضَلَا لَتُهُ راہ بھولسی ضَلُّ راہ بھولا وہ
ضَلُّوا راہ بھولے وہ ضَلَلْتُ راہ بھولا میں ضَلَلْنَا راہ بھولے ہم
اور خاک اور ناچینہ ہوتے ہم اور دل گئے ہم ۛ فصل الضاد مع المیم خالی

مزن

فصل الضاد مع النون

ضَنَكٌ تنگ اور تنگے ضَنَيْنٌ جبیل

فصل الضاد مع الواو والهاء ۛ خالی ۛ

مزی

فصل الضاد مع الياء

ضَيْفٌ مہمان ضَيْفٌ نقصان اور تنگے ضَيْفٌ کمزور ہونے
اور خراب قیمت ضَيْفًا روشنے ضَيْفٌ تنگے دل اور گمراہ
مہیر لینا ضَيْفٌ تنگ اور جبیل ۛ

ب
طا

نام ایک جگہ کا ہے۔ سنّ میں کہ وہاں آدم اور حوا علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
 باہم ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا اب ایام حج میں وہاں کھڑے ہوتی ہیں
 عَرَفَ پہچانا اوسنی عَرَفُوا پہچانا اوہنوں نے عَرَفَتْ پہچانا
 تو نے عَرَفَتْ پہچوایا اوسنے عَرَفَتْ پہچوایا تو نے عَرَفْتُ پہچو
 کر نیوالا اور معروف اور نیکی اور جان اور ایک کے پیچھے ایک آنے والا
 عُرْوَةٌ بالضم دستہ کوزہ اور گوشہ اور پکڑنے کے چیز اور عُرْوَةُ الْوُحُوشِ
 قرآن شریف اور کلمہ شہادت عَرَّارٌ میدان صاف کہ جسمین گہاس نہو
 عَرَشٌ تخت اور چہت عُرُوشٌ چہتوں عُرْبٌ عرب عورتیں محبت ایسا
 کہ اپنے خاوند پر عاشق ہو دین عَسْرَتِي عوب والا عَرَضٌ عزت اور مال
 سوائے جائیداد اور سونے کے عَرَضٌ کشادگی اور روبرو دلانا عَرَضٌ
 ظاہر کیا اوسنے عَرَضَتْ ظاہر کیا میں نے عَرَضُوا ظاہر کئے گئے وہ عَرَضِينَ
 جوڑا عَرَضْتُمْ پردے میں کہا تھے عَرَضْتُمْ سپر اور حید اور ہمت اور
 داؤ اور صاحب کو کلب درمی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ دست مال اور
 بہت کہنت ایک ہی چیز ہے مگر حقیقت میں فرق ہے اس واسطے کہ
 دست مال کے معنی لکھے ہیں کہ جو چیز ہر وقت ماتہ میں رہے بطریق
 کہیل اور مشغلے کے انہ اور ہمت کہنت صرف داؤ اور مکر کو کہتے ہیں
 داندرا علم عُرْجُونٌ شاخ کھجور کے سو کہے اور کھٹری ہلال منسا اور
 نام گہاس عَسْرَمٌ زور و ہمت یا نام بند کا ہے یا نام جو ہے کا ہے

طالعین
مشکلہ

طالعین
مشکلہ
طب

طح طرح

طح طرح
طوطو
طوطو

فصل العین مع الزار

عسریز غالب اور نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور نام بادشاہ
 مصر کے وزیر کا ہے کہ خاوند زلیخا کا تھا عَسْرَتٌ اقبال اور سرکشی عَسْرَتٌ

طرز طرس
طرس طرس
طرس طرس

دعا

سچی عورتیں صابر صبر کر نیوالا صابر صبر کر نیوالے صابر صبر کر نیوالے صابر صبر کر نیوالے
 صابرات سہار نیوالیان صابر فرا السین سہار و تم صابرتون چپ
 رہنے والے صاحب رفیق اور یار صاحبی دویار صابرتہ عورت
 جو رو صاحب ساتھ اور رفاقت کرتو صابرتون خوار ہونے والے
 صابرتون قطار باندھنے والے صابرات صف باندھنے والیان
 صابرتین روزہ رکھنے والے صابرات روزہ رکھنے والیان
 صابرات گھوڑے تین پانوں پر کھڑے رہنے والے اور اوپر کنارے
 سم چوتھے پانوں کے ٹیکنے والے صابرتون پانچنے والا اصل میں صابری تھا
 می نقلیں سے کہ پڑھی صابرتون پانچنے والے صابرتہ آواز تند صابرتہ
 موت اور بچلے اور عذاب اور آگ کہ آسمان سے بر سے صابرتین توڑ نیوالے

طغ

طف

طاق

طل

فصل الصاد مع البار

صبر سہار نا اور محنت اوہٹانے صبر محنت اوہٹانی اوسنی صبر فرا
 محنت اوہٹانی اوہٹون نے صبر تم سہارا تے صبر تا صبر کیا ہمینی
 صبار بڑا سہار نیوالا صبح فجر کی اوسنی صباح اُجالا ہونا
 صبح سالن صبح رنگ صبت ڈان صبت ڈالا اوسنی صبتنا
 ڈالا ہینے صبتو ڈالے گئے وہ صبتے لڑکا فضل الصاد
 مع التاء والشار و الحسیم ہ خالی ہ فضل الصاد
 مع الحار ہ صحت کتابین صحاف رکابیان

طم

طن

طو

فصل الصاد مع الخاء

صبر بہتر بڑا صبر بہتر بڑا
 ہ فضل الصاد مع الدال ہ صدق

ظنوم بن الصفا ظلام سگر ظلمات اذہریان ظل سایہ ظلال
 تالیہ ظلیں حایہ نندہ اظلتت سایہ کیا ہے ظلتہ سایہاں ظلل
 ساہان سب ظلل تمام دن ہوا وہ ظنوا سارے دن ہوئے وہ ظلتت
 مونی وہ ظلتت مونی ظنتم مونی تم یہ فضل الطار مع ایسم
 ظن آب سا مونا ظن لن کیا یہ فضل الطار مع المون
 ظرق گمان ظنوں گمان سب ظرق گمان کیا اوئے ظنما گمان کیا
 دو زبان نے ظنوا گمان کیا اوہوں نے ظنتم گمان کیا تنے
 ظنتت گمان کیا میں نے ظنتت گمان کیا کہنے

ظن ظن ظن ظن ظن
 ظن ظن ظن ظن ظن
 ظن ظن ظن ظن ظن
 ظن ظن ظن ظن ظن

فصل الطار مع الواو خالی

فصل الطار مع الطار بظہر آشکارا ہوا وہ ظہر پیہہ ظہ
 ظہور پینہ ظہیر پشیمان ظہرنے پیہہ کے پیچھے ڈالا
 گیا ظہیرۃ دنت دو پھر یہ فضل الطار مع الیا یہ خالی

باب العین

ع ا ب

فصل العین مع الالف بعا پد پوجنے والا اور عصفہ
 ہونے والا عایدون بوجنے والے اور عصف ہونے
 والے بکافیل فی قولہ نقالی انا اول العایدین
 اے اول العایدین بعا پد است پوجنے
 والیاں عایدات اور کیا اوہنے عاہدوا قرأ
 کیا اوہوں نے عاہدت اور کیا تو نے عاہدتم اور
 کیا تنے مع ایل کام کرنے والا اور عافس عافلون کام کرنے
 والے اور جو کہ امام کمیطر سے واسطے تحصیل زکوٰۃ اور عشر سے

بندہ بنایا تو نے مِنَ التَّعْلِيدِ عَجَبُ قُرْمِي فَرَسٌ لَفَيْسٌ عَجَبَةٌ آكَاهُ مَوْنَاوُ
 نصیحت پکڑنی عَجَبَتْ كَهِيلٌ اور میفائدہ عَجَسَ تَبُورِي جُرْمَانِي اوسنی عَجَبُو

اور اس اور بہت سخت نام دن قیامت کا ہے **فصل العین مع التاء** ع ت

عَقِيْقٌ اَزَادٌ كَيْلَا اور اَزَادٌ كَرِيْمُوَالَا (بیت العقیق) نام کعبہ کا ہے یعنی اَزَادٌ
 کیا گیا ہے لوگوں کے قبضے سے یا اَزَادٌ كَرِيْمُوَالَا لوگوں کو عذاب دوزخ سے۔

عَجْتِيْدٌ تِيَارٌ عَجْتٌ اَكْرَاهُو عَجُوْ سُرْشِي كَرْنِي اور شَرَارَتٌ عَجُوْ اَشْرَارَتٌ
 کی ادھون نے عَجْتٌ شَرَارَتٌ کی اوسنی عَجَلٌ بَدُوْ ۛ

فصل العین مع التاء ۛ عَجْرٌ خَبْرٌ كِي گئے وہ **فصل العین مع الجیم** ع ج ع ش ع ج

عَجَبٌ اَجْنِبَا عَجَبُوَا اَجْنِبَا كِيَا اَدْوَانٌ عَجَبْتٌ تَعَجَبٌ كِيَا تُوْنِي عَجَبْتُمْ
 تَعَجَبٌ كِيَا تَنْعَجِبُ نَادِرٌ عَجَابٌ تَعَجَبٌ مِيْنِ دَانِي وَالْاَجْبَلُ بِهَرَجَلُ
 شَتَابِي عَجْوَلٌ اُوْتَاوَا عَجَلْتُمْ جَدِي كِي تَنْعَجِلْتُمْ جَدِي كِي مِيْنِ عَجَلٌ اَسْنِي عَجَلْتُمْ
 جَدِي كِي مِيْنِ عَجَلٌ جَدِي كَرُوَا عَجَابٌ وَبِلِيَانٌ عَجُوْزٌ بَرْمِيَا عَجْرَتٌ تَهَا

فصل العین مع الحاء وَاخَارَةٌ خَالَةٌ ۛ **فصل العین مع الدال** ع ح ع خ

عَدَّ كَيْتَا عَدَّ كُنَا اوسنی عَدَّ وَخُوبٌ كُنَا اوسنی عَدَّ وَكُنْتِي اور كُنَا ہوا
 عَدَّةٌ كُنْتِي اور كُنَا حِيضٌ يَاهِيْنِي كَا كَبْعٌ طَلَاقٌ يَامُوْتٌ خَاوْنَدُ كِي ہونے
 عَدَّةٌ سَامَانٌ عَدْوَةٌ نَا كَا اور حَلِيْبَةٌ وَرَعَدٌ وَدَشْمَنٌ عَدَاوَةٌ دَشْمَنِي عَدْوَانٌ
 ظَلَمٌ عَدُوْرِيَادَتِي اور شَرَارَتٌ عَدْتُمْ پَر كِيَا تَنْعَدْنَا پَر كِيَا مِيْنِ عَدْوَعِدِه
 كَرُوَا عَدَلٌ بَرَابَرٌ كَرْنَا عَدَلٌ بَرَابَرٌ كِيَا اوسنی عَدَلٌ رِيْمِي كِي جَلِيْبَةٌ اور نَامٌ بَهِيْتٌ كَا

حدس نَسُوْرٌ ۛ **فصل العین مع الذا** ۛ عَذَبٌ مِيْشَا ع ذ

عَذَابٌ مَارَا و مَرَا عَذَبٌ سَرَادِي اوسنی عَذَبْنَا سَرَادِي مِيْنِ عَذْرِ الزَامِ اُو
 بِيَانَةٌ عَذَّتْ بِنَاهُ لِي مِيْنِي ۛ **فصل العین مع الراء** ۛ عَرَفَاتٌ ع ر ع

نام ایک جگہ کا ہے منامین کہ وہاں آدم اور حوا علیٰ نبی اور علیہ الصلوٰۃ والسلام باہم ملے اور ایک دوسرے کو پہچانا اب ایام حج میں وہاں کھڑے ہوتی ہیں عرف پہچانا اوسنی عرفوا پہچانا اوہنوں نے عرفت پہچانا تو نے عرفت پہچنایا اوسنے عرفت پہچنایا تو نے عرف دلجوئی کر نیوالا اور معروف اور نیلے اور جان اور ایک کے پیچھے ایک آنے والا شعروۃ بالضم دستہ کوزہ اور گوش اور کپڑے کے چیز اور عہدۃ الوضوۃ قرآن شریف اور کلمہ شہادت عرار میدان صاف کہ جس میں گھاس نہ ہو عرش تخت اور چہت شعروش چہتوں عروب عورتیں محبت الین کہ اپنے خاوند پر عاشق ہو دین عسرتی عوب والا عرصن عزت اور مال سوائے جائیداد اور مومن کے عرصن کشدگی اور روبرو لانا عرصن ظاہر کیا اوسنے عرضت ظاہر کیا یعنی عرضوا ظاہر کئے گئے وہ عرصین جوڑا عرضتم پردے میں کہاتے عرضتہ سپر اور حید اور سمیت اور داؤ اور صاحب کو کب درمی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ دست مال اور بہت کہتہ ایک ہی چیز ہے مگر حقیقت میں فرق ہے اس واسطے کہ دست مال کے معنی لکھے ہیں کہ جو چیز ہر وقت ماتہ میں رہے بطریق کہیل اور مشغلی کے انج اور بہت کہتہ صرف داؤ اور مکر کو کہتے ہیں داند علم عرجون شاخ کھجور کے سوکھے اور کھڑی ہلال منسا اور نام گھاس عسرم زور و محنت یا نام بند کا ہے یا نام جو ہے کا ہے

فصل العین مع الزار

عز

عسرتیز غالب اور نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور نام بادشاہ مصر کے وزیر کا ہے کہ خاوند زمین کا تھا عسرتہ اقبال اور سرکشی عسرتہ

بزرگی **عشر** غالب ہوا وہ **عشر** زینام پیمبر کا ہے بیٹے شریف کے
 نسل یعقوب علیہ السلام سے سبط لاوی سے جو وہ پڑھی میں ہارون
 بن عمران تک پہنچتے ہیں فقہ اور حکام مشہور ہے **عشر** می نام بیت کا ہے
 یا درخت کا کہ بنو سلم و عنیدہ کفار عرب اسکو پیش از ظہور نور اسلام کے
 پوجتے تھے اب مٹ گیا **عشرت** کنارہ بکڑا تو نے **عزین** جوٹ
 جوٹ لینے گروہ گروہ **عزیم** ہمت اور قصد **عزم** قصد کیا
 اوسنے **عزموا** قصد کیا اوہوں نے **عزمت** ارادہ کیا
 تو نے اور ٹھہر چکا تو **عزروا** رفاقت کی اوہوں نے **عزروا**
 مدد کی تھے **عزرتا** فوت دی مینے **فصل العین مع الہین**
عس یہ حروف مقطعات ہیں معنی انکے اللہ ہے کو معلوم ہیں
عسی قریب ہے افعال مقاربہ سے ہے **عسیم** توقع کے
 مینے **عس** اوہان ہوا یعنی گئے اور آئے اصدا د سے ہے
عسرتک **عسرة** دشواری **عسری** سختے **عسرت** **عسرت**
 مشکل **عسیر** دن قیامت ہے **عسل** شہد

عس

عس

فصل العین مع الہین

عشر دس عورتیں **عشر** دس عورتیں **عشرة** دس
 مرد **عشرون** بیس **عشیر** ریشیق اور خاندان **عشرة** قبیلہ
 اور برادری کے لوگ **عشائر** نشتیان دس مینے کی جگہ **عشیر**
 نام کا وقت **عشیتہ** مغرب کا وقت **عشا** محبوب سے نماز عشا تک اور نماز

عس

فصل العین مع الصاد

عصا لڑھی **عصی** لڑھیان **عصی** نافرمان گنہگار

عَصَے نافرمانی کی اوسنی عَصَوُا بجلی کی اوہون نے عَصِیْت نافرمانی کی تو نے عَصِیْتُم بجلی کی تنی عَصِیْت نافرمانی کی میں عَصِیْنَا گناہ کیا مہی عَصِیَان گناہ عِصْم عممتین عَصَبَة جماعت دل سی چالیس تک یا تیس سی چالیس تک کعَصِیْب سخت عَصْف بہوسا اور ہوا ہی سخت اور ہاک کرنا عَصْر زمانہ اور نماز عصر اور آخر روز

فصل العین مع لضاو

عَصُوَا کا نا اوہون نے دانٹون سے عَصِیْن بویان اور ٹکڑے ٹکڑے عَصُد بازو اور قوت ۴ فصل العین مع لطاہ عَطَّار دینا اور بخشنا اور بخشش عِطْف بازو اور طرف عَطَلَتْ چوڑھی گئے

فصل العین مع لطاہ

عَظِیْم بڑا مرتبہ والا نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے عَظْم بڑی جمہا عَطَام ہڈیاں اور بزرگ سب عِظ نصیحت کر تو عِظُوَا نصیحت کرو تم ۴ فصل العین مع لعین والنعین ۴ خالی

فصل العین مع الفاء

عَفُو گناہ معاف کرنا اور مال کا زیادہ ہونا نفقہ سے عَفَا معاف کیا اوسنی عَفُوَا زیادہ ہوئے اور معاف کیا اوہون نے عَفُوْنَا معاف کیا ہمنے عَفَا معاف کیا گیا وہ عَفُوَا بہت درگزر نوا لاصفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہے عَفْرِیْت دیو خبیث راکس ۴

فصل العین مع القاف

عُقْدَة گرہ عَقْد کرہن عَقُوْد اقرار سب عَقْدَتْ عہد باندہی عَقْدْتُم باندہی عَقْر کو بچین کاٹین اوسنی عَقْرُوَا کو بچین کاٹنا

ع من

ع ط

ع ظ

ع ع ع

ع ف

ع ق

اونہوں نے عقیم بیج اور ہوا خشک اور لڑائی اور دن قیامت عقلمو
 سہا اور ہون فی عقب بیٹے اور پوتے اور اینڈ می عقمتے دو اینڈ یان عقبے
 آخرت اور بدلا عقاب سزا اور عذاب عقبتہ پہاڑ کی چوٹی اور کہانی کہ او ترنا و سکا
 مشکل ہو ۛ فضل العین مع الکاف ۛ خالے ۛ

ع ک

ع ل

فضل العین مع اللام

علیم وانا اور صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ علم او سکا عیش سے
 فوش تک محیط ہے علم جاننا علم جاننا اوسنی علمو اجانا اور ہون نے
 علمت جاننا اوسنے علمت جاننا تو نے علمتم علمتمو جاننا تھے
 علمنا جاننا مئے علم سکھایا اوسنی علمت سکھایا تو نے
 علمتم سکھایا تھے علمت سکھایا میں نے علمت سکھایا مئے
 علمتم سکھائے گئے تم علمنا سکھائے گئے ہم علماء عالم سب
 علام بڑا جاننے والا علمے او پر حرف جر ہے آخر اسم میں زیر کرتا
 علمے سرکشی کی اوسنی علمو غالب ہوئے وہ اور سرکشی کی اور ہون نے
 علمے بلند علمے بلند مرتبے والا صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
 علیا بہت او پر علیون نام ایک جگہ کا ہے ساتوین آسمان پر
 عرش کے علامات نشان علامت کہا علق خون بندہ اپنے علقہ اپنے علقو چرنا

ع م

فضل العین مع المیم

عمر جینا اور زندگی عمر جان اسکا استعمال قسم میں اکثر آتا ہے عمارۃ
 آبادانی اور آباد کرنا عمر و ابابا اور ہون نے عمران نام ہے نیک
 شخص کا بیٹے ماٹان کے اولاد سے سلیمان علیہ السلام کی باور آل عمران
 علیے اور مریم علیہا السلام ہیں اور موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو بھی

والسلام قصد اولیٰ قرآن مجید میں متصل مذکور ہے عیالہ متعجبی رحمت نام
 دن خوشی مسلمانوں کا ہے عین بڑی آنکھیں والیان عینتہ کزبان
 عیالہ عین حیمہ اور ہنگامہ عینان دوشی عیون عیون آنکھیں عیننا عاجز ہون

باب الغین

فصل الغین مع الالف بہ قابل مردی خبر غافلون بہمیزب فاکت
 عوزین بجزب غالب زبردست غالبون زبردست سب غایطون
 کثا وہ اور پاجنا غابریں بچے رہنے والے غار کہوہ غابریں تاوان
 دینے والے غاشیہ جہانے والے اور قیامت غاؤون کہ اسب
 غایطون غصہ میں ڈالنے والے غابریون چہنے والے غابریہ
 چہنے والے غافر جہانے والا اور بخشنے والا غافرین گناہ چہنے والے
 غاسق اندھیرا کرنوالا اور جائز اور رات بہ فصل الغین مع الباء
 غبیرہ گرد اور غبار بہ فصل الغین مع التاء بہ خالے
 فصل الغین مع الثاء بہ غشائے گہاس سوکے اور کوڑا بہ
 فصل الغین مع الحاء و الحاء و الحاء بہ خالی

فصل الغین مع الدال

عذ کل اور قیامت عذو صبح کرنے عذاة صبح کا وقت عذار صبح کا
 کہا عذوا صبح کو چلے وہ عذوت صبح کے وقت چلا تو عذوق
 باقی بہت بہر کہ بہ فصل الغین مع الذال بہ خالے
 فصل الغین مع الراء بہ عذوقہ عذو پانی اور جھروکہ جمعہ عذوقات
 جھروکے اور دیکھے عذوق کہڑکیان عشر فریب دیا اوسنی عذوق
 فریب اور فریبنا عذوق فریب دینے والا اور دشا اور شیطان عذوق

یہ کہا یا اور فریب دیا اوسنی غروب کو اور غروب کا لے غروب چہنا آفتاب کا
 غروبت ڈوبے وہ غروبتی مغرب کی طرف والا غروبتہ پیچم والے غروب
 ڈوبتا یا ان میں غرق ڈوبا وہ غمرام تاوان اور ہلاکی اور عذاب اور حصر

فصل الغین مع الزار

غز

عشزل سوت غزے مجاہد لوگ ۛ فصل الغین مع لسین ۛ
 عشق اندیر کیا اوسنی عشاق سب عشلین دہون ۛ

غس

فصل الغین مع لشین

غش

عشا و قہ پوشش اور پردہ آنکہہ کا عشی چہا یا اوسنی عشی خوب ڈانا پاد

فصل الغین مع الصاد

غص

عصہ نضک اور عصم عصب چہن لیا اوسنے ۛ ۛ

فصل الغین مع الضاد

غض

غضبان غصہ ہر اہوا عصب غصہ کرنا عصب غصہ کیا اوسنی غضبوا غصہ ہونے

فصل الغین مع الطار ۛ عطار پردہ ۛ فصل الغین مع لطا
 والعین والغین ۛ خالی ۛ فصل الغین مع الفار ۛ

غط غظ

غغ غغ

غغ غغ

عفور بخشنے والا اور ڈانا بننے والا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عفار جو

بخشنے والا لگن ہون کا عفران بخشش عفر بخشا اوسنی عفرنا بخشا ہونے

عقلہ بخبری اور ہول ۛ فصل الغین مع القاف والکاف

غق غک

فصل الغین مع اللام

غل

غلغ غلاف غلب درخت کہنے اور ملے ہونے غلب زور غلبوا

کیا اور ہون اور زبردست ہونے وہ غلبت زبردست ہونے وہ غلبوا مغلوب

کے گئے وہ غلبت مغلوب کی گئی اور ہرائی گئی وہ غلی جوش مارنا مار گیا

غلام رکھا مین دوڑ کے جبکہ علبان لڑکے اور چوکرے
 غلظت بند کیا اور باندھا اسی غلظت بیز یعنی کینہ اور دشمنی غلظت جیسا
 اور خیانت کی اسی غلظت باندھے گئے وہ غلظت باندھا اور
 طوق ڈالو تم غلظت سختی غلیظت کا رہا سخت اور گندہ غلظت زبردست
 شب اور بے جسم لوگ اور ہونے: فصل الغین مع لمب
 غم تنگی اور رنج غم شبہ غمام بدلی عجمہ سختی اور بیہوشی عجمرات بیہوشیا

غم

فصل الغین مع النون

غن

غننے تو نگر اور بی پروا صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظم بکری عظمتم لو لانی

غو

فصل الغین مع الواو

غومی گمراہ غومی براہ چلا وہ غومینا گمراہ ہونے ہم غومر سو کہنا اور گمراہ
 باقی میں جانا غول سر پہرنا غواص غوطے لگانے والا غواص پر دی اور بیان

غہ غی

فصل الغین مع الیاء
 غیب رسوائی اور گمراہ نہیں غیب چہ چیز غیب چہ چیز غیب
 انتہا کوئے اور میدان کی جہین آدے چپ جاوے غیب میںہ اور
 پانی کا برسنا غی گمراہ غیظ غیظ غیظ شکہا گیا

ب

باب الفار

ف یہ حروف عطف ہے لفظ میں کچھ عمل نہیں کرتا ہے

فا

فصل الفار مع الالف

فاقرہ کر ٹوڑنے والی اور حادثہ پشت شکن فتمہ گروہ فتمان دو گروہ
 فائز واپرے اور رجوع کیا اور ہونے فارت بہر آئے وہ فتمین جانچنے والے
 اور گمراہ کر نوالے فواد دل فاحشہ بیجانی اور عورت بدکار اور کام خلا

فتمین

شرح نہیں عنہ **فَاطِرٌ** چیزوں والا اور پیدا کرنا والا **فَاطِرٌ** جو میں کیا اور سنی **فَاطِرٌ**
 کہولنے والے اور خیر **الْفَاكِحِينَ** حق سبحانہ تعالیٰ **فَاطِرٌ** مراد کو پہنچا دہ **فَاطِرٌ**
 مراد کو پہنچنے والے **فَاتٍ** نابود ہوا وہ اور مرگیا وہ **فَارِضٌ** بیل بوز ہا
 اور جثہ دار **فَاقِعٌ** زرد شوخ خالص **فَارِقُوا** جدا کر دو تم **فَارِقَاتٌ** جدا کرنے
 والیاں **فَالِقٌ** چیرنے والا اور بچانے والا **فَاعِلٌ** کرنے والا **فَاعِلُونَ**
 کرنے والے **فَاكِهَةٌ** میوہ **فَاكِهُونَ** خوش ہوئیو الے اور خوش طبعے
 کرنے والے **فَارِهِينَ** خوش ہوئیو الے اور تکلیف کرنے والے
فَاسِقٌ بدکار اور نافرمان **فَاسِقُونَ** نافرمانی کرنے والے
فَاصِلِينَ جدا کرنے والے اور خیر **الْفَاصِلِينَ** حق سبحانہ تعالیٰ ہے
فَاهٌ سنا اور سکا ہے ضمیر کے ہے اور الف ثانی نصب کے پہ لفظ
 بے ضمیر کے الف کے ساتھ ہینن آیا ہے **فَارِغٌ** خالی ہونے والا اور
 فراغت پائیو الا **فَاحِرٌ** بدکار **فَانٍ** نابود ہوئیو الا اور آخر کو چہنے والا
فَضْلُ الْفَارِغِ مع الباء بے خالی **فَضْلُ الْفَارِغِ** مع اللتاء
فَتَحٌ کہولنا اور فیروز مندی **فَتَّاحٌ** خوب کہولنے والا اور حکم کرنے والا
 نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا **فَتَّحٌ** کہولا او سنے **فَتَّحُوا** کہولا او ہونے
فَتَّحْنَا کہولا ہنے **فَتَّحْتُمْ** کہولے گئے وہ **فَتَّحْنَا** آزمائش یعنی
 جانچنا اور حیرت اور کفر اور فساد **فَتَّوْنَا** جانچنا **فَتَّوْنَا** جانچنا
 او ہونے **فَتَّوْنَا** جانچنا **فَتَّوْنَا** جانچنا **فَتَّوْنَا** جانچنا
 گئے وہ **فَتَّوْنَا** بچلائی گئے تم **فَتَّى** جو ان **فَتَّيْنَا** دو جو ان **فَتَّيْنَا**
 جہان اور غلام سب **فَتَّيْنَا** جو ان سب **فَتَّيْنَا** لو نڈیاں اور جو ان
 عورتیں **فَتَّوْنَا** اور توڑا پڑنا اور زمانہ دو پیغمبروں کے پہچ میں **فَتَّوْنَا**

فِرْعَوْنِ خُونِ ہو تو اسے فرعون اکیلا اور طاق فراوی اکیلا کہ فرات
 پانی ٹہنڈا پیاں بجانی والا فریٹ گو بر کہ شکنے میں ہووے فریخت فایغ
 ہوا تو فریظ ظم کرنا اور حد سے گذرا ہوا فریظم حد سے بڑھے تم فریظ
 تصور کیا ہے فریظ تصور کیا ہے فریظ فریضۃ اللہ کا فرمایا ہوا
 جیسے نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ فریض مقرر کیا اوسنی فریضتم مقرر
 کیا ہے فریضنا نہیں یا ہے فریضی جو ہنہ اور بہتان فریخون نام
 ہے پادشاہ مصر کا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور دعوے
 خدائی کا کرتا تھا یہ لقب ہے اور نام اوسکا مصعب ابن ریان تھا اور ایک
 فرعون یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا اوسکا نام ریان تھا اون
 دونوں کے درمیان چار سو برس کا فاصلہ تھا کہا ہونے کتب القصص ۳

فصل الفارغ مع الزار

فرغ گہرا ہٹ اور ڈرنا فرغ ڈرا اور گہرا یا وہ فرغوا گہرا لے وہ
 فرغ چیت میں آیا وہ یعنی گہرا ہٹ دور کی گئے تغیل واسطے سبک ہے

فصل الفارغ مع السین

فسق گناہ اور نافرمانی فسوق گناہ کرنا فسوق گناہ کیا اوسنے
 فسقوا گناہ کیا اور بدکاری کی اوہوں نے فسقوا خرابی اور تباہ کرنا
 فسدت تباہ کیا اوسنی اور خراب ہوئی وہ فسدتا خراب ہوئیں دونوں

فصل الفارغ مع الشین

فسلمتہ ٹوٹے تم اور نامردی کی تہمت ہے فصل الفارغ مع الصاد
 فصل جد کرنا اور الگ ہونا اور فصل الخطاب بات درست سچی کہ حق
 اور باطل میں جدائی کہے اور یوم الفصل دن قیامت فصل جد ہوا او

فاز

فس

فش

فص

بایں ہوا وہ فضلت جدا ہوئی وہ فصلنا خوب بیان کی تینے فصلت جدا
کی گئی یعنی خوب بیان کی گئی وہ فضیلت کہا نا اور کہنے کے لوگ فصّال دود

ف من

فصل الفار مع المضاد

فصل بزرگی اور زیادتی اور زیادہ ہونا فصل بزرگی دی اوستی فصلت
بزرگی دی مینی فصلنا بزرگی دی مینی فصلنا بزرگی دی گئے وہ فضتہ چاند

ف ط

فصل الفار مع الطار

فطرۃ پیدائش اور دین ہلام قطر بنایا اوسنے فطور دناڑ اور سوراخ

ف ظ

فصل الفار مع الطار : فقط سخت دل اور بد زبان :

ف ح

فصل الفار مع العين

فعلت کرنا اور کام فعل کیا اوستی فعلوا کیا اور ہون نے فعلن کیا اور ہون نے
فعلت کیا تو نے فعلتم کیا تینے فعلت کیا مینے فعلنا کیا مینے فعل
کیا گیا وہ فعال خوب کرنے والا صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے

ف غ ف

فصل الفار مع الغین والفار : خالی : فصل الفار مع القاف

ف ق

فقترتنگے اور احتیاج فقیر درویش کہ ایک روز کا بھی قوت نہ کہے اور سیکڑ
وہ ہے کہ کچھ کہتا ہووے یا بالکس جمعہ فقتر اور درویش سب :

ف ک

فصل الفار مع الكاف

فک چہرہ و ناف کگر سوچا اوسنے فکھین مینتے :

ف ل

فصل الفار مع اللام

فلک کشتی اور کشتیان فلک آسمان اور کھر فلق صبح اور صبحدم اور
دوزخ اور کواہی دوزخ مین فلان شخص معلوم کنایہ سے آدمی سے :

ف م ف

فصل الفار مع المیم والنون : خالکے :

فصل الفارح مع الميم والنون بنجانے

فصل الفارح مع الواو

فوارش ناشائیکے فوق اور فوق اہنا اور جہلت اور وہ حالت
 کہ جان کندن کے وقت ہوتی ہے اور زمانہ بہت تہوڑا قوا کہ سو سے قوم
 لہسن اور پیاز اور گہیوں اور چنے فوارجات بانی اور مراد کہ پہنچنا فوز
 جلدی اور جوش کہا نادگ اور حشہ وعیزہ کا قوت نیت ہونا اور پہنچنا
 اور پہنچنا قوج دل یعنی شکر قوا و دل باب الفارح مع الالف میں
 گدیز چکا : فصل الفارح مع الباء : فصل الفارح مع الباء
 اور سبھا یا مہنے : فصل الفارح مع الباء : فصل الفارح مع الباء

فی بیج کی سنی میں حرف جری آخر میں زیر دیتا ہے فیل راہتی اور صحاب الفیل اربہ اور سنی

باب القاف

ق کہتے ہیں کہ یہ حرف تشابہات سے ہے جسے انکے الکر خود معلوم ہیں اور جسے
 تاویل بہت میں بعضے کہتے ہیں مراد اس سے کوہ قاف ہے کہ محیط تمام زمین
 کو ہی لے غیر ذلک وق بجا تو صیغہ امر کا ہے وقتے یقے سے :

فصل القاف مع الالف

قال کہا اوسنے قال کہا دونوں نے قالوا کہا اوہوں نے قالت
 کہا اوسنے قالتا کہا دو عورتوں نے قابل کہنے والا قابلون کہنے
 والے اور دوپہر کو سونے والے قالین دشمنے کرنے والے اور سبزار
 ہونے والے قانت فرمان برداری کرنے والا اور حاکم کرنے والا اور
 غلطی میں خاموش ہونے والا قانتون تابعداری کرنے والے قانتات
 فرمان بردار عورتیں قائل آپہن لڑا رہے قالوا آپہن لڑے وہ

قَاتِل آپسین لڑائی کرتا تو **قَاتِلًا** آپسین لڑائی کر رہا ہو تو **قَاتِلُونَ** آپسین
 لڑائی کر رہے ہو تو **قَاتِمٌ** کھڑا ہو نیوالا **قَاتِمُونَ** کھڑے ہونے والے **قَاتِمَةٌ** کھڑے
 ہونے والے **قَاتِمٌ** کھڑا ہوا وہ **قَاتِمُوا** کھڑے ہوئے وہ **قَاعِدٌ** بیٹھنے والا
قَاعِدُونَ بیٹھنے والے **قَارِعَةٌ** حادثہ اور سختی اور قیامت **قَارِئَةٌ**
 سیاہ اور سخت دل ہونے والے **قَاهِرٌ** غالب **قَاهِرُونَ** غالب
 ہونے والے **قَادِرٌ** زبردست **قَادِرُونَ** زبردست سب **قَاصِدٌ**
 ارادہ کرنے والا اور درمیانہ چلنے والا اور بلکا **قَاصِفٌ** توڑنے والا
 اور ہوائے سخت اور رعد اور آواز مت **قَلَعٌ** زمین برابر **قَالِيعٌ** تہوڑی
 بس کرنے والا اور محتاج خوار **قَاطِعَةٌ** کاٹنے والے اور کام ٹہیرانے
 والے **قَاصِنٌ** حکم کرنے والا **قَاصِيَةٌ** آخر ہونے والے **قَاصِرَاتٌ**
 کوتاہ کرنے والیاں اور قاصرات الطرف حورین بہت کی کہ اپنی نگاہیں
 کوتاہ کرتے ہیں سوائے اپنے خاوند کے دوسرے کے طرف
 نہیں دیکھتے ہیں **قَاسِمٌ** قسم کہا لئے دینے **قَابٌ** مقدار اور دریا
 قبضہ کمان اور خانہ کمان کے **قَابِلٌ** قبول کرنے والا **قَاسِطُونَ**
 ظلم کرنے والے اور منصف لوگ **قَانِطِينٌ** ناہید ہونیوالے
قَارُونٌ نام ہے چچیرے بہائے موسیٰ علیہ السلام کا
 بسبب بے ادبے کے زمین میں عسرق ہو گیا

قب

فصل القاف مع الباء

قَبْلُ اگے ظروف غایات سے ہے جب معنایاں ایسے
 اسکا منورے ہوتا ہے تب میں نے علیٰ لغنم ہوا کرتا ہے
 اور مذکورہ اور نسبتاً منسیا کی صورت میں معرب **قَبْلُ** ہانسنے

قبل طرف قبلة کعبہ اور جس کے طرف منہ کریں نماز میں قبول لے لینا اور
 مان لینا قبیل ضامن اور گروہ قبائل گروہ سب اور گوتین قبضتہ ایک
 قبضہ قبض کہینچا اور پکڑنا قبضت پکڑا میں قبضنا پکڑا میں اور کہینچا
 ہننے قبس جسمین مردے کو گارین قبور قبرین قبس جلا ہوا

فصل القاف مع التار

قتل ہلاک کرنا اور کسی خیر کو خوب سمجھنا قتل مار ڈالا اوسنی قتلوا
 مار ڈالا اوہون نے قتلت مار ڈالا تو نے قتلتم قتلتم مار ڈالا میں نے
 قتلنا مار ڈالا میں نے قتل مار گیا وہ قتلوا مارے گئے وہ قتلت
 ماری گئی وہ قتلتم مارے گئے تم قتلنا مارے گئے ہم قتلوا
 مکڑے مکڑے گئے گئے وہ قتال باہم لڑائی کرنے قتل ہرے مارے
 گئے قترہ گرد اور عجار قتر سیاہی اور گردین قتر نخل اور نخل کرنے
 اہل اور عیال پر

ق ت

ق ت

ق ج ق ح

ق خ ق ح

فصل القاف مع الادل

قتدیر زبردست ایک نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نودونہ نام سے
 قتر اندازہ اور جانچنا قتر اندازہ اور قتر اور حکم اور طاقت قتر
 اندازہ کیا اور تنگ کیا اوسنی قدر و اندازہ کیا اور جانچا اوہون نے قدرنا
 توانا ہوئے ہم قتر تنگ کیا گیا وہ قتر مقرر کیا اوسنے قدرنا
 اندازہ کیا اوہون نے قترنا اندازہ کیا یعنی قتر اندازہ کر تو قدر لکین
 قدم باؤن اور عمل اچھے برے قدم صدق نشاہت نیک اور سابقہ خبر
 قتر حرف ہے کہ فعل پر آتا ہے نہ اسم پر ماضی پر یعنی تحقیق کے ہوتا ہے

اور صنایع پر یعنی کہی کے قَدَّتْ بہاؤاوسنے قَدَّ بہاؤا گیا وہ قَدَّ
 راہیں مختلف اور جماعت آدمیوں کی قَدَمُ آگے بیجا اوسنے قَدَمُوا آگے بیجا اہون
 قَدَمْتُ آگے بیجا اوسنے قَدَمْتُمْ قَدَمْتُمْ آگے رکھاننے قَدَمْتُ آگے بیجا
 میں قَدَمْنَا آگے بیجا میں قَدَمُوا آگے بیجا ہم قَدِمُ پرانا قُدُس پاک
 اور روح القدس جبریل قُدُوس بہت پاک قُدح سہم اور آگ سلگانے

فصل القاف مع الذال

قَدَفْ پہینکا اوسنی قَدَفْنَا پہینکا ہمتے ۛ فصل القاف مع الراء
 قَرْنِ آرام بکھرنے اور وقار اور آرام سے رہو تم صیغہ امر جمع مونث حاضر کا
 قار یا وقار سے تحقیق اسکے صرف کی کتابوں میں ہے قرن سنگ
 اور گیسو اور زمانہ اور سنگت قَرْنِینِ دوسینگ یادوسر اور ذوالقرنین
 سکندر خضر علیہ السلام (ق) قَرُونِ زمانے اور سنگتین قَرْنِ
 ساتھن محشر مارنے قرآن پڑھنا اور جمع کرنا نام ہے کلام الہی کا کہ
 ہماری پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوا قرآن پڑھا اوسنی قَرِئْتُ
 پڑھا تو نے قرآن پڑھا میں نے قَرِئْتُ پڑھا گیا وہ قریش نام ایک قبیلہ
 عرب کا ہے اولاد نضر بن کنانہ سے قرور حین اور طہر اصدا ہے
 قرنیہ کاؤن اور شہر قرینین دو گاؤن مراد مکہ اور طائف ہے قرنی
 شہر سب اور ام القرے نام کے کا ہے قرے نزدیک اور ذوی القرے
 ناتے والے قریب نزدیک قریۃ خویشی اور نزدیک قربات نزدیک
 قریب نزدیک اوسنی قربا نزدیک کیا دونوں قریبنا نزدیک فرمایا
 قرآن انیا اور جو چیز اللہ کے راہ میں صرف کریں اور اوس ہے اللہ سبحانہ
 کی نزدیک دہونڈین قسح زخم اور پہوڑا قرطاس کاغذ قرطیس کاغذ

ق د

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

ق ح

ق ط

ق ق

ق ک

ق گ

ق ج

ق د

ق ذ

ق ظ

ق ی

ق ر

ق ز

اور ورق سب تر ص اودنا ردینا اور کاشنا اور بدلا اور جو آگے بھیجے
جاوے نیلے اور بدے سے تر آرام قرۃ آنکھ کی ٹہنڈک اور روشنی
آنکھ کی قرۃ آنکھ روشن کرنا اور ٹہنڈے کر تو تر درۃ بندر سب جمع قرۃ

فصل القاف مع الزارہ خالی :

فصل القاف مع سین بنامع الة سخته سخته سخت اور سیا
ہونی وہ فتورۃ شیر درندہ اور شور و شرمہ بانسنا اور حصہ ستمنا
بانسنا بھنے تم سوگند و سطر انصاف اور عدل و سطر اس ترازو
قتینین عالم اور سردار نصار کے : فصل القاف مع اشین خالی

ق س

فصل القاف مع الصاد

ق ص

قصاص بدلے میں مارنا اور برابر اور دیا ہوا پیر لینا قصص
قدم بقدم چلنا اور بیان کرنا حال کا قصص داستان سب قصص
بیان کیا اوسنے قصصنا بیان کیا ہنے قصصنے پیچھ چل تو قصصے داستان
دور علحدہ قصومی انتہا اور نہایت دور قصمننا توڑا ہنے قصر محن
قصور و محلات قصد بیان کرنا : فصل القاف مع لصاد

ق ص

قضی حکم کیا اوسنی اور مرادہ اور خبردار کیا اوسنی قضوا حکم کیا اونہوں نے
قضیت چکایا تو نے قضیت حکم کیا تھے اور ادا کیا تھے قضیت تمام
کیا مینے اور پورا کیا مینے قضینا چکایا مینے اور حکم کیا مینے قضی فیصلہ
کیا گیا وہ قضیت تمام ہوئی اور آخر کو پہنچائی گئے وہ قضب ترکاری

ق ط

اور نام گہاس کا ہے : فصل القاف مع الطاء : قطع ٹکڑا
اوپر پہلی رات کا اندھیرا قطع ٹکڑے قطعہ کاٹنے قطعنا کاٹا مینے قطع
کاٹا گیا وہ قطع خوب کاٹا اوسنی قطعن کاٹین اور قطعنا خوب کاٹا مینے

اور پرانگندہ کیا ہے **قَطَعَتْ** پہاڑی گئی وہ **قَطِرَان** گندک اور ایک
 دوا ہے سیاہ کہ اونٹوں کو ملتے ہیں قاموس میں ہے کہ وہ شیرہ درخت پہلے
 ہے اور بعض کہتے ہیں روغن درخت عرعر کا ہے **قِطْر** تانبا پگھلا یا ہوا
قِطْمِير تاگا باریک کہ کھجور کے گھٹلے کے اندر ہوتا ہے یا چمکا اور جھلی
 اسکی **قِطْ** حصہ **قُطُوف** سوہا اور خوشے **فَضْلُ الْقَافِ** مع
الطَّاءِ **خَالِي** **فَضْلُ الْقَافِ** مع **الْعَيْنِ** **قَعُورًا** گرہے وہ **قَعُودٌ** بیہنا **قَعِيدٌ** ہمیشین اور بیہنے **وَالْاَفْعَادُ**
بِشَادِهِ **قَعْدٌ** وایبیٹے وہ **فَضْلُ الْقَافِ** مع **الْخَيْنِ** **خَالِي**

قوع

قوف

فَضْلُ الْقَافِ مع **الْفَاءِ**

قَصِينًا بے روپے بیجا ہے **قَفُورًا** ٹھیراؤ تم **فَضْلُ الْقَافِ** مع **الْقَافِ**
وَالْكَافِ **خَالِي** **فَضْلُ الْقَافِ** مع **الْلَامِ** **قَلْبٌ**
دَلٌّ اور **عَمَلٌ** **قَلْبَيْنِ** دو دل **قَلُوبٌ** دل سب **قَلْبُونًا**
 ملنے اور ہرے وہ **قَلْنٌ** کہا دن سب عورتوں نے **قَلْتٌ** کہا تو نے
قَلْتُمْ کہتے **قَلْتُ** کہا ہے **قَلْنَا** کہا ہے **قُلٌّ** کہہ تو **قُلٌّ** کم ہوا
قَلِيلٌ تھوڑا **قَلِيلُونَ** تھوڑے **قَلِيلَةٌ** تھوڑی **قَلِيٌّ** دشمن رکھا اور
قَلَامٌ لکھن **وَالْيَانُ** **قَلَمٌ** جس سے لکھتے ہیں تراشا ہوا اور مراد قلم سے
 قرآن مجید میں وہ قلم ہے جو لوح محفوظ پر جاری ہوا ابن جریر نے کہا کہ
 وہ نور کا ہے طول اسکا بین السما والارض ہے حدیث میں ہی اللہ تعالیٰ
 نے قلم کو پیدا کیا اور اس کے طرف دیکھا درمیان سے چیز گیا فرمایا لکھ لولا کیا لکھوں
 فرمایا جو ہونیا اسے قیامت تک ہر تمام کیونات لوح محفوظ پر لکھا **فَضْلُ الْقَافِ** مع **الْمِيمِ**
قَمْرٌ کھری ہوئی تم **قَمْرٌ** کھرا ہو تو **قَمْرٌ** چاند **مَثَلٌ** چھڑے **قَمِيصٌ** کڑہ **قَمَطْرٌ** زرخفت

قول

قم

فضل الکاف مع العین

کعبۃ بینا کعبین دو ٹخنے پہ فضل الکاف مع العین پہ عالی

فضل الکاف مع الفار

کفر انکار کفران ناشکری کفور ناشکری کفور ناشکر کفار

ناہمسپاس کفار منکر سب اور کہیتی کرنیوالے کفارۃ پاک کرنیوالا اور اتار اور اتار

اور ڈھانپنے والا گنا ہونکا کفرۃ منکر سب کفر منکر ہوا وہ اور نہ مانا اوسنی

کفر و انکر ہونے وہ کفرت منکر ہونے وہ کفرت منکر ہوا تو کفر تم

منکر ہونے تم کفر منکر کیا گیا وہ کفر تا دور کیا ہونے کفر دور کر اور اتار اور

ڈھانپ تو کت پنچ اور ہتھیلے کف دو ہتھیان کت روکا اوسنے

کفقت روکا ہینے کفو روکے گئے وہ کفے بس ہے وہ کفتیا بس

قہین ہم کفات جمع کرنیوالے اور جمع کرنے کے جگہ کفل حصہ اور ذو کفل

نام ہے ایک پیغمبر کا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کفلین دو حصے کفل

سپرد کیا اوسنے اور ضامن ہوا وہ کھیل ضامن کفو جوڑا اور مثل اور ہمتا

فضل الکاف مع القاف والکاف پہ خالے

فضل الکاف مع اللام

کلمۃ ایسا بات کلمات پہ کلم باتین کلام بات کرنی اور جس بات

خاندہ نامہ حاصل ہووے کلم بات کی اوسنی کلم بات کیا گیا وہ کلم

مانپاتنے کلا دو مرد کلتا کہ عورتین کلا ایسا ہین کلت سب اور

ہر چیز کلتا جب کلت بوجہ اور گران کلا کہہ سکتے ہین کہ مرے

اور باب اور مان اور فرزند وارث چھوڑے کلا کہا و تم دونوں کلو کہا و تم

کلتے کہتا تو کلت کتا پہ فضل الکاف مع المیم

نام ہے اور سب جازہ لگانے کا کتب اور بزرگ سب رکن پر یا بزرگی کہا بہت بڑا
 کثیر ہے اور گناہ بڑا کہا بزرگناہ بڑے بعضوں نے کہا سترہ ہیں اور
 بعضوں نے نئے حصہ کے ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کبیرہ وہ ہے کہ
 جس گناہ پر وعید آئی ہو اور حق یہ ہے کہ کہا بزرگناہ میں جیسے لیسۃ العذر
 اور ساعت جمعہ اس واسطے کہ ابہام مناسب حال تحذیر کے ہے اور خصائص
 اسکے سے یہ ہے کہ نماز جمعہ تکبیر کا پہلا کعبت اور نما کیا گیا وہ
 کعبتوں اور مذہبے کئے گئے وہ کعبت اور مذہب کی گئی وہ کعبتوں اور مذہب کی
 وہ کعبت محنت اور سحر ہے **فصل الکاف مع التاء** ۛ کتاب

کتاب
 کتب

کت

لکھنا اور لکھا ہوا اور ام الکتاب نام لوح محفوظ کا کہ اصل ہے سب کتابوں کے
 کتب کتابین کتب لکھا اوسنے اور فرض کیا اوسنے کتب
 لکھا اور فرض کیا اوسنے کتب لکھا تو نے کتب بنا لکھا ہننے اور فرض
 کیا ہننے کتب لکھا گیا وہ اور فرض کیا گیا وہ کتب جیسا اوسنے
فصل الکاف مع التاء

کث

کثرة بہتیت اور بہت ہونا کثرت بہت ہوا وہ کثرت بہت ہونی
 وہ کثرت بہت کیا اوسنی کثرت بہت کثرت چیزین بہت کثرت تو وہ
فصل الکاف مع الجیم والحار والحاء ۛ خالے
فصل الکاف مع الال

کد

کذ

گدج پہننا اور ریخ او پھانا اور کام کرنا کذت نزدیک بہا تو کذنا
 داؤس کہا یا ہننے ۛ **فصل الکاف مع الال** کذب جو ہنہ
 کہنا اور جو ہنہ کذب جو ہنہ کہا اوسنے کذبوا جو ہنہ کہا اوسنے
 کذبت جو ہنہ بولے وہ کذبوا جہلائی کذب وہ کذب جہلا یا اوسنی کذبوا

جہلا یا اونہوں نے کذبت جہلا یا اوسنی کذبتم جہلا یا تنے کذبنا
 جہلا یا تنے کذبوا جہلا نے گئے وہ کذاب بڑا جہونا کذاب جہلا
 اور بت کر انیوالا کذبیک سبطیح فصل الذال مع الالف میں کذبنا کذبتم سبطیح مع فصل ک
 مع الزا کذبنا خوشی اور ناگوار کذبہ زبردستی اور رنج اور سختی کذبہ بڑا جانا
 اوسنی کذبوا بربیعہ وہ کذبتموا بد جانا تنے کذبہ برا لگایا اور معلوم
 کیا اوسنی کذبہ ایک بار کذبتمین دوبار کذب عنم اور گہرا
 کذبتے چوکی جسکو فارسی میں سذلی کہتے ہیں کذبیم بزرگ اور
 بخشنے والا نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرام بزرگ لوگ یعنی سردا
 سب اور کرام کا تبین نام ہے منشی نامہ اعمال کا کہ ایک نیلے کو
 دس لکھتے ہیں اور ایک بدی کو ایک کذبتم بزرگے دی تو نے
 کذبنا بڑائی دی ہنے یہ فصل الکاف مع الزا پہ خالی

کس

فصل الکاف مع سین

کسب کما یا اوسنی کسبا کما یا دون نے کسبوا کما یا اونہوں
 نے کسبت کما یا اوسنی کسبتتم کما یا تنے کسبوۃ کسبہ
 کسونا پینا یا تنے کسبا لے مارے اور ست لوگ
 کساد بگڑنا کسفا کسفا کسفا

کس

فصل الکاف مع شین

کشف کہوں کشف کہولا اوسنی کشفتم کہولا اوسنے کشفتم کہولا
 تو نے کشفتم کہولا تنے کشفتم چیکا خالے گئے وہ

فصل الکاف مع لصاد والصاد والطار پہ خالے
 فصل الکاف مع الطار پہ کظیم گہٹ رہا یعنی منگدل

کس

فصل الف مع العین

کعبۃ بیت اللہ کعبین دو ٹخنے پہ فصل الکاف مع العین پہ عالی

کع
کغ
کف

فصل الکاف مع الفار

کفر انکار کفران ناشکری کفور ناشکری کفوز ناشکر کفتار
ناہمسپاس کفار منکرب اور کہیتی کرنیوالے کفارۃ پاک کرنیوالا اور اتار اور
اور ڈبائینے والا گناہوں کا کفرۃ منکرب کفر منکر ہوا وہ اور نہ مانا اور نہ
کفر و انکر ہوئے وہ کفرت منکر ہوئی وہ کفرت منکر ہوا تو کفر تم
منکر ہوئے تم کفر منکر کیا گیا وہ کفر تا دور کیا ہنئے کفر دور کر اور اتار اور
ڈبائے تو کفت پنچہ اور ہتیدے کفے دو ہتیدیان کف روکا اوسنے
کففت روکا ہنئے کفو روکے گئے وہ کفے بس ہے وہ کفتیا بس
ہن ہم کفات جمع کرنیوالے اور جمع کرنے کے جگہ کفیل حصہ اور ذوالکفل
نام ہے ایک پیغمبر کا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کفیلین دو حصے کفل
سپر دیا اوسنے اور ضامن ہوا وہ کفیل ضامن کفو جوڑا اور شل اور جتا

کق کک

فصل الکاف مع اللام

کل

کلمۃ ایک بات کلمات کلم باتیں کلام بات کرنی اور جس بات
فائدہ نامہ حاصل ہووے کلم بات کی اوسنی کلم بات کیا گیا وہ کلمۃ
مانپاتنے کلا دو مرد کلتا کو عورتین کلا ایسا ہنیں کل سب اور
ہر چیز کلا جب کل بوجہ اور گران کلا لے اسکو کہتے ہن کہ مرے
اور باپ اور مان اور فرزند وارث چھوڑے کلا کہا و تم دونوں کلا کہا و تم
کلنے کہا تو کلب کتا پہ فصل الکاف مع المیم پہ

کم

کَمْ کتنے اور بہت یہ دو قسم ہے استقنایہ اور جزئیہ کَمْ پڑھو اسکو کَمَا
 تم دو نون کو پڑھو **فصل الکاف مع النون** پڑھو کُن ہو تو کُن کن
 میں عورتیں صیغہ جمع مؤنث غائب ہے کُنْتُ ہے تو اسے مرد کُنْتُ ہو تم
 کُنْتُ تھے تو کُنْتُمْ تھیں تم سب عورتیں کُنْتُ ہوں میں کُنْتُمْ
 میں ہم کُنْتُمْ تم سب عورتیں ضمیر مفصل ہے واسطے جمع مؤنث مخاطبہ کے
 کُنْتُمْ خزائن کموز خزانے کُنْتُمْ کھڑے کُنْتُمْ گنود مرد ناشکر
 کُنْس دیک جائیوالے نام ہے سبج سیارہ کا پڑھو **فصل الکاف مع الواو**
 کُوْنُوا ہو تم اسی مرد کو کُوْنُوا ہو تو اسی عورت کو افر عورتیں بی ایمان
 یعنی کافرہ کو اَعِيب عورتیں نوجوان کو وَرَث تہہ کی گئی وہ کُوْنِب
 تارا کُوْا کِب تارے کُوْثُر بہت خیرین اور نام ہے ایک چشمے کا بہت میں

فصل الکاف مع الہاء

کَهْف غار یعنی کہوہ اور پناہ کی جگہ اور صحاب الکہف نام ہے سات
 جوانوں کا کہ زمانے میں وقیانوس کے بہاگ کر غار میں پناہ لے تھے باقی
 قصدا کا قرآن شریف میں مذکور ہے کَهْل پورے عمر اور میانہ سال

فصل الکاف مع الیاء

کَيْف کس طرح گئے تاکہ بہ حرف نواصب مضارع سے ہے کَيْل ماپ
 کَبِد مکر کَبِدُوا فریب کر تم

باب اللام

ل بمعنی واسطے اور البتہ کسور اور مضروب آتا ہے اور آخرین اسم معرب کے جو دینا ہے

فصل اللام مع الالف

لَا نہیں ہے لَأْت نہیں تھا (تے) ایمین زیادہ ہے اور خشت کے نزدیک

فصل الكاف مع العين

كعبة بيت الله كعبين دو ٹخنے پہ فصل الكاف مع العين پہ عالی

کع
کعب
کف

فصل الكاف مع الفار

كفر انكار كفران ناشكركي كفوور ناشكركي كفوور ناشكركي

ناسپاس كفار منكر سب اور كهيتي كرنوالے كفارة پاك كرنوالا اور اتار اور اتار

اور ڈانپنے والا گنا ہونگا كفرة منكر سب كفت منكر ہوا وہ اور نہ مانا اوسنی

كفروا منكر ہوئے وہ كفرت منكر ہوئی وہ كفرت منكر ہوا تو كفوور تم

منكر ہوئے تم كفوور منكر كيا گيا وہ كفوور نا دور كيا ہننے كفوور دور كرا اور اتار اور

ڈانپ تو كفت پنچہ اور ہتیدے كفتے دو ہتیدیان كفت روکا اوسنے

كففت روکا ہننے كفوور روکے گئے وہ كفتے بس ہے وہ كفتیا بس

ہن ہم كفات جمع كرنوالے اور جمع كرنے كے جگہ كفل حصہ اور ذو كفل

نام ہے ایک پیغمبر کا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ و السلام كفلین دو حصے كفل

سپر دیا اوسنے اور ضامن ہوا وہ كھیل ضامن كفوور جوڑ اور مثل اور ہمتا

فصل الكاف مع القاف والکاف پہ خالے

کق کک
کک

فصل الكاف مع اللام

كلمة ایک بات کلمات پہ کلم باتین کلام بات کرنی اور جس بات

خاندہ نامہ حاصل ہووے کلم بات کی اوسنی کلم بات کيا گيا وہ کلم

مانپانے کلا دو مرد کلتا کہ دو عورتین کلا ایسا ہنن کل سب اور

ہر چیز کلا جب کل بوجہ اور گران کلا کہتے ہن کہ مرے

اور باب اور مان اور فرزند وارث پنہورے کلا کہا و تم دونوں کلا کہا و تم

کلنے کہا تو کلب کتا پہ فصل الكاف مع الميم پہ

کم

کَمٌ کتنے اور بہت یہ دو قسم ہے ہتھنما میہ اور جزیرہ کَمٌ ۛ کَمُوَاتِمُو کَمَا
 تم دو نون کو ۛ **فصل الکاف مع النون** ۛ کُنُّن ہو تو کُنُّن کن
 میں عورتیں صیغہ جمع مؤنث غائب ہے کُنْتُ ہے تو اے مرد کُنْتُ ہو تم
 کُنْتُ تھے تو کُنْتُ تھیں تم سب عورتیں کُنْتُ ہوں میں کُنْتُ
 میں ہم کُنْتُ تم سب عورتیں ضمیر مفصل ہے واسطے جمع مؤنث مخاطبہ کے
 کُنْتُ خزائن کُنُوَز خزانے کُنْتُ کُنْتُ کُنُوُد مرد ناشکر
 کُنُّس دیک جائیوالے نام ہے سبج سیارہ کا ۛ **فصل الکاف مع الواو**
 کُوُوَا ہو تم اسی مرد کو نے ہو تو اسی عورت کو افر عورتیں بی ایمان
 یعنی کافرہ کو اعب عورتیں نوجوان کو ورت ہتہ کی گئی وہ کُوُوِب
 تارا کو اکیب تارے کو ورت بہت خیرین اور نام ہے ایک چشمے کا بہشت میں

فصل الکاف مع الہاء

کَہِف غار یعنی کہوہ اور پناہ کی جگہ اور صحاب الکہف نام ہے سات
 جوانوں کا کہ زمانے میں وقیانوس کے بہاگ کر غار میں پناہ لے تھے باقی
 قصدا کا قرآن شریف میں مذکور ہے کَہِف پورے عمر اور میانہ سال

فصل الکاف مع الیاء

کَیْف کس طرح گئے تاکہ بہ حرف نواصب مضارع سے ہے کَیْل
 کَیْد مکر کَیْد و افریب کر تم

باب اللام

لَ یعنی واسطے اور البتہ کسور اور مفتوح آتا ہے اور آخرین اسم معرب کے جردیتا ہر

فصل اللام مع الالف

لَا نہیں ہے لَآث نہیں تھا (تے) اس میں زیادہ ہے اور خشت کے نزدیک

یہ ایک کلمہ ہے صیغہ ماضی کا اس میں ضمیر فاعل کی مستتر ہے **لَا تَنهَم**
 بت کا ہے کہ بنو ثقیف نے اس کو طائف میں رکھا تھا اور اس کو پوجتے تھے
لَكِنَّ مگر اور **لَكَيْتَ** اُمُو اللّٰهُ رَبِّيْ صِلْ مِيْن لَكِنَّ اَنَا تَهَا لَف كُو
 دور کیا اور نون کو نون میں ادغام کیا **لَكِنَّ** پر **لَا تَفْتِي** ملاقات
 کر نیوالا اور ملنے والا **لَا تَسْتَمُّ** جماع کیا تمنے اور جو اہل تمنے **لَا رَحْمُ**
 بلامت کرنے والا **لَا عَمُوْنَ** لعنت کرنے والے **لَا تَعْبِيْنَ** کہیلنے
 والے **لَا زَب** لازم اور چکنے والا **لَا رَشِيْنَ** رہنے والے **لَا عَشِيْ**
 بیہودہ بکنا اور بیہودہ بات **لَا رِيْة** کہیلنے والے اور غافل اور مشغول
 ہونے والے **لُوْر** گور مورتے **فَصِل** اللام مع الباء **رَبَّ**
لَبِيْثَ رہا اور دیر کی اوسنی **لَبِيْثُوْا** دیر کی انہوں نے **لَبِيْثَتَ** رہا
لَبِيْثُ رہے تم **لَبِيْثَتُ** ہا میں اور دیر کی میں **لَبِيْثَتَا** دیر کی ہمیں
لَبَسَ دھو کہا اور چھپانا کام کا کسی پر **لَبَسْنَا** چھپا ہم نے اور
 مشتبہ کیا ہمیں **لَبَسَ** پوشاک اور لباس القولے شرم اور جاہل سحت
 وگندہ **لَبُوْس** زرہ اور پوشش **لَبَد** انبوہ اور نندہ **لَبَد** مال بہت
لَبَن دودھ **فَصِل** اللام مع التاء **وَالثَّار** **بَد** خالی

ل ب

فصل اللام مع الجيم

لُبْحَةُ پانی بھیتے دریا کے عمیق پر آب **لُبْحُوْا** اڑے اور نزاع کے
 اور انہوں نے **فَصِل** اللام مع الحاء **بَد** بختیہ دائرہ ہی سخن خطا کرنی
 اور آواز کو لبثنا اور کہہ کر دوسرا ارادہ کرنا **لَحْمُ** گوشت **لَحُوْمُ** گوشت سب
فَصِل اللام مع الخاء **بَد** خالی **فَصِل** اللام مع الدال **بَد**
لَدُنْ پاس **لَدِيْ** نزدیک **لُدَّ** جبکہ اللام **فَصِل** اللام مع الذال

ل ج

ل ح

ل د

لذ	لذۃ مزا : فضل اللام مع الراء ذغالی : فضل اللام مع الزار
لس	لزوم ثابت اور جہاد : فضل اللام مع سین : لست نہیں ہے تو
	لستم نہیں ہو تم لستن نہیں ہو تم سب عورتیں لست نہیں ہو تم
	لسان زبان اور بات سان صدق تعریف ہے : : :
	فضل اللام مع لشین والصاد والاضاد : خالے
	فضل اللام مع لطار
لہ	لطیف مہربان اور رازدان اور نہایت نازک : فضل اللام مع الطار
لظ	لظا آگ دیکھتی ہوئی اور نام ایک طبقہ دوزخ کا کہ مقام ترساؤن کا ہے
لع	فضل اللام مع لعین : لعنت نفرین یعنی پہنکار لعن پہنکار اوسنی
	لعنت پہنکار اوسنی لعنا نفرین کی معنی لعن لعنت کیلگی
	لعنوا لعنت کے گئے وہ لعب کہیل لعل شاید اور مقدر
لخ	فضل اللام مع لعین : لغو بیہودہ (ف) لغوب تہکنا اور بیمار ہونا
	فضل اللام مع الفار
لق	لقیف سنا اور لپٹا ہوا : فضل اللام مع القاف : لقمان
	نام ہے ایک حکیم الہی کا بہا نجبہ بن ایوب علیہ السلام کے بعضے انکو نبی بھی کہتے ہیں
	مگر حکمت اور ولایت اونکی بالاتفاق ہی لقمان لقیاملاقات کی دونوں
	نے لقاوا لے اور ملاقات کی انہوں نے لقیتم ملاقات کی تھے لقیتم ملاقات
	کی معنی لقی آگے لایا وہ : فضل اللام مع الکاف اللام : خالے
لم	فضل اللام مع لمیم ہلتا نہیں اور جب لم نہیں یہہ دونو جوازم
	مضارع سی بین لم کیون یہہ مرکب ہی لام جازہ اور ما استفہامیہ سے الٹا ہے
	آخر سے لگی لم سب اور سارا اور جمع کرنا اور اپنا اور اپنے

ف نام علم کے نوزاد کو دوسرے کو کوئی کسی چیز پر قسم کہاوی س لکان پر کو دراست

دوستوں کا حصہ کہانا لکھ تھوڑا اور گناہ صغیرہ اور گناہ کے نزدیک ہونا لکھتے
 ملامت کرتی ہیں تم لکھ لیک اور سب دیکھنا لکڑی عیب چین اور آنکھ سے
 اشارہ کرنے والے لکھو اچھا اور ہونے لکھنا چھو اپنے

فصل اللام مع النون

ل ن

لن ہرگز نہیں نواصب مضارع سے ہے لنت نزم ہوا تو

فصل اللام مع الواو

ل و

لو اگر نولاً اگر نہیں لو ما کیون ہیں لومۃ ملامت کرنی لوموا ملامت
 کر وہم لوامۃ ملامت کرنے والا لون رنگ لوج تختے اور لوج محفوظ نام ہوا
 تختی کا ہے کہ مقادیر عالم کے ابتدا سے انتہا تک اوسمیں مکتوب ہیں ہوا میں
 ہے اوپر ساتویں آسمان کے معاملہ میں ہے کہ ایک دانہ مروارید کے لنبوا اوسکا
 عرض سے زمین تک اور عرض اوسکا مشرق سے مغرب تک کنارے اوسکے
 یا قوت کے ہیں اور وہ بغل میں فرشتے کے ہے کہ داہنی طرف عرض ہے
 اور اوس فرشتی کو اوسکے ما فیہا سے خبر نہیں لوامح رس بہرین مینہ برسا
 والین لواذ بناہ لواتۃ سیاہ کرنیوالی لؤوامسکا یا اور پیرا دیوں نے لوظ
 نام ہے ایک پیغمبر کا بیٹے تہ ابراہیم کے علیٰ نبینا وعلیہا الصلوٰۃ والسلام

فصل اللام مع الباء

ل ہ

لطب شدہ (فت) لہوتا تا ۴ فصل اللام مع الباء ۴
 لیل رات لیلۃ ایک رات لیالی ۴ لیالی راتیں لیلۃ نام ہے
 ایک قسم کھجور کے درخت کا کہ اوسکے پہلے کو عجمہ کہتے ہیں لیکن نزم کے
 پیرنا زبان کا وقت شہادت کے کہ صاف سنا جاوے لیت شاہ
 لیس نہیں ہے وہ لیسوا نہیں ہیں وہ لیسٹ نہیں ہے وہ

ل ہ اور ابی لیس لیسیت ہی لیس لیس

باب المیم

ب
۱۴

فصل المیم مع الالف پڑھا نہیں اور کیا اور وہ چیز اور کچھ سب معنون کے ساتھ قرآن میں آیا ہے اور ما کے ساتھ ذابھی آیا ہے ماٹ مرادہ مالوٹا مرے وہ ماہر باقی اور مارہین لطفہ ماروٹ نام ہے ایک فرشتے کا دو بعضوں کے نزدیک چاہ بابل میں مقید ہے مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ فرشتوں کی شان میں لَا یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وادوسے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انکو واسطے تعلیم سکھایا تھا تاکہ ساحران کافر سے مقابلہ کریں اور انکے وہم اور خیال کو باطل فرماویں اس واسطے کہ اوس زمانے میں جادو بہت تھا اور جو کامل ہوتا تھا اوسکو نبی کہتے تھے اور بعضوں کے نزدیک نام ایک بادشاہ کا ہے اور قرأت تَلْکَیْنِ بکسر اللام کے مؤید اوسکی ہے ماجوج نام ہے ایک شخص کا دو شخصوں سے اولاد یافت ابن نوح سے مالک مختار اور نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور یہی نام ہے سردار خزندہ دوزخ کا ذکر اس کا حدیث میں یوں ہے کہ تمام عمر کبھی نہیں بہنا اور اسکا چہرہ کیسے کشادہ نہیں دیکھا جب اہل دوزخ اوسکو پکاریں گے تب ہزار برس کے بعد جواب دیکھا ہیر و مالکون مختار لوگ مال سونا روپا کیونکہ جی اوسکی طرف میلان کرتا ہے وَاَلَا تُعَذِّبُهُمْ وَافر کے ہے کہ مدد اوسکی پی در پی پہنچے مَالِئُونَ بہر نیوالے وہ ماکول کہا گیا اور کہا نیلے چیز ماکولون پھانے والے وہ ماکولون ہیرے والے اور دیر کر نیوالے وہ ماکولن جاے پناہ ماکولن پناہ دیا گیا وہ ماکولن برتنے کے چیزیں جیسے سباب گہر کے اور پانی اور آگ و غیرہ اور طاعت فرما کر ماتی انبوالا وہ جائتہ سوباشین دوسو ماکولین فریب سنی والی وہ ماکولن جب راتو ماکولنم جب تک ہونم ماکولن جب مابین ماکولے

شکنا کما یدقہ خوان آرہتہ کاب پہرنے کی جگہ کاب حاجتین مارو
سکش کارج شعلہ بے دود مالغہ بجانوالے اور بازار کہنے والے

فصل المیم مع لہار

۲۲

مبارک برکت وللا وہ مبارک برکت والے وہ اور لیلۃ المبارک شب قدر
یا شب براءت منبیین کہلا اور ظاہر کرنیوالا وہ منبیتہ بیان کی گئے وہ
منبیتات بیان کی گئیں وہ منبتتے آزمانی والا وہ منبتلین جانچی والے
وہ منبتدنی ظاہر کرنے والا اور شروع کرنے والا وہ منبثور جگہ اور جگہ دیکھا
وہ منبثرون پاک کئے گئے وہ منبثوث بکیر گیا وہ منبثوثہ پراگندہ
کی گئی وہ منبثودون دور کئے گئے وہ منبذیرین اسراف کرنے والے وہ
منبعوثون اٹھائے گئے وہ اور بھیجے گئے وہ منبلسون شک میں ڈالنے والے
اور اس توڑنے والی وہ منبشیر خوشخبری دینے والا وہ منبشرون خوشے
سنائی والی وہ منبشیرات خوشخبری لانے والیان وہ منبصر دکھانوالا وہ
منبصرون دکھانے والے وہ منبصرۃ دکھانوالے وہ اور دیکھنا منبتدل
بدلنے والا منبطلون باطل کرنے والے وہ منبیرمون ہیرانے والے اور
منببوط کرنے والے وہ منببوطتان دوکٹا وہ منبلیغ بخیا اور جگہ پہنچے

فصل المیم مع المار

۲۳

مسترب جوازم فصل مضارع سے سے شرط اور جہز اس کے واسطے
آتایے متشابہہ اپنا متشابہات اپکار (ج) اور کسی طرف طے
والیان وہ آیات متشابہات اسکو کہتے ہیں کہ اسکے کئے معنی ہوں
اور بعض اس کے ظاہر شرح کے موافق ہوں مانند مقطعات
قرآنی کے لہر کل شئی مالک الا وجمہ لہ ید اللہ فوق یدیم

کے حکم ایسی آیتوں کا بعضوں کے نزدیک صرف توفیق ہی امام سجادؑ کی کہا جاتا ہے
 تحقیق میں الاعد پر وقت لازم ہے اس واسطے کہ حقیقت سے مشابہت کے سوا
 اللہ کے کوئی واقف نہیں اور بعض کے نزدیک تاویل حسن کوئی رو سے
 متاع پونجی اور سباب خانگی اور بر خرداری لینے مشغلت فائدہ مند کیا
 مشغلت فائدہ مند کیا تھے مشغلت بر خرداری دی میں فی مشغلت
 فائدہ دیا ہے مشغلت فائدہ دو تم مشغلت خاک میں رلا ہوا اور درویش
 مشغلت کرنے والی اور اوپر سے گر کے مرے ہو سے وہ کہا نا اوسکا
 حرام ہے مشغلت ڈھلنے والا وہ مشغلت جڑے ہوئے وہ
 مشغلت پیشہ کرنے والا اور مسخر کرنے والا مشغلت ہلاک کیا گیا وہ
 مشغلت جگہ لینے والا وہ مشغلت کھڑے والا وہ مشغلت نیک پکڑنے
 والے وہ مشغلت پکڑنے والیاں وہ مشغلت ارادہ کرنے والا وہ
 مشغلت شہرائی کرنے والے وہ مشغلت پاک کی گئی وہ مشغلت
 وفات دینے والا اور اپنے طرف پھرانے والا مشغلت بارہ بارہ ہونو والا
 مشغلت بہتر گار سب مشغلت بورا کرنے والا وہ مشغلت مراد
 مشغلت مرے تم مشغلت مر میں مشغلت مرے ہم مشغلت مضبوط
 مشغلت اللہ ہے پر ہوسا کرنے والے مشغلت در پے در پے
 گئے تار مشغلت اتباع کئے گئے وہ مشغلت محصل اور جگہ تجہ
 لکانی کے مشغلت تکیہ لگانے والے وہ مشغلت جہا
 کئے گئے وہ مشغلت علیہ علیہ مشغلت خیرات کرنے والے وہ
 مشغلت خیرات کرنے والیاں وہ مشغلت نزادیک نزدیک
 ہائے مہتاب پہنا اور جگہ ہونے کے اور توبہ کے جگہ

مُتَقَابِلِينَ سَائِنِ مَثْوِيٍّ مُجَلِّدٍ وَالِیٰ اَوْ فَرَسَتْ سَعَةَ دَرَمَانَتْ كَرْنُوَالِی
 مَثْوِيٍّ اَوْ مَثْوِيٍّ نَمَتْ دَنَی كَنَی وَهٗ اَوْ اَسْوَدَهٗ كَرَاهِ سَبِّ مَثْوِيٍّ بِهٗ
 جَمَدٍ مَثْوِيٍّ دَكْهَانِ وَالِیٰ اَوْ اَرَسَتْ كَرْنِی وَالِیٰ اَوْ دَهٗ
 مَثْوِيٍّ كَثْوَانِ نَجِيلٍ اَوْ رَدَّ خَوْنِی كَرْنِی وَالِی مَثْوِيٍّ بِهٗ بَزْرُكِی كَرْنُوَالِی
 مَثْوِيٍّ عَوْرُ كَرْنُوَالِی وَهٗ مَثْوِيٍّ رِیْحٍ اَوْ مَحْنَتِ اَوْ هٗ اَوْ اَسْلَی
 مَثْوِيٍّ دَوَّلِیْنَ وَالِی مَثْوِيٍّ اَنْتَظَرُ كَرْنِی وَالِی مَثْوِيٍّ نَهْطَ
 كَرْنِی وَالِی مَثْوَالٍ بَلَدٍ هُوْنَی وَالِی لَاقِنَا فِی سَوْنِ خَوَاشِی كَرْنِی وَالِی
 اَوْ دَهٗ هُوْنَی وَالِی ۞ فِضْلِ الْمِیْمِ مَعَ التَّاءِ ۞ مِثْلُ مَانَتْ
 مِثْلَی دَوَّ مَانَتْ مِثْلُ كَهَاوَتْ اَوْ رَحَالَی مَثَلَاتٍ كَهَاوَتْ اَوْ رَحَابِ
 سَبِّ مِثَالٍ مَقْدَارِ مَثْوَانِ بُوْجِبِی كَنَی كَنَی وَهٗ مَثْوِيٍّ لَدَی هُوْنَی
 مَثْوِيٍّ دَوَّ مَثْوَانِی تَكَرَّرِی كِنِی اَوْ رِیْحِ مَثْوَانِی سُوْرَهٗ فَاجِئَی
 اَوْ اَسْلَی كَهٗ اَوْ مِیْنِ سَاتِ اَمِیْنِ هِیْنِ دَوَّ اَوْ تَرَعِی هِیْ اَمِیْنِ
 اَوْ اَمِیْنِ بَارِدِیْنِ مِیْنِ مِثْلَی بِهٗ بِهٗ لَیْذِیْهِ خَاصَّی مَثْوَالِی بَقِی
 اَوْ اَرَامِی كِی جَلَبِی مَثْوَانِی جَمِیْعِی هُوْنَی كَهٗ اَوْ مَسْنَلِی مَثْوَانِی بَدَلَا اَوْ بَدَلَا
 مَثْوِيٍّ كَهٗ اَوْ اَمِیْنِ ۞ فِضْلِ الْمِیْمِ مَعَ الْحَبِیْمِ ۞
 مَجْمُوعِی اَشْرِی مَجَالِسِی مَحْفَلِی مَحْبَبِی جَوَابِی دِیْنِی اَوْ
 قَبُولِی كَرْنِی اَوْ مَجْمُوعِی جَوَابِی دِیْنِی وَالِی مَجْمُوعِی كَانَاكِی
 جَمِیْعِی لِنَی كَهٗ جَمِیْعِی جَمِیْعِی كَهٗ اَوْ مَجْمُوعِی جَمِیْعِی
 جَمِیْعِی هُوْنَی اَوْ مَجْمُوعِی دِیْوَانِی مَجْمُوعِی بِنَی كَهٗ اَوْ قَتِی وَبِالضَّمِّ هَبَاكِی اَوْ
 مَجْمُوعِی بَزْرُكِی كَهٗ اَوْ مَجْمُوعِی جَمِیْعِی اَوْ مَجْمُوعِی كَهٗ اَوْ مَجْمُوعِی
 كَهٗ اَوْ مَجْمُوعِی مَعَ الْحَبِیْمِ مَعَ الْحَبِیْمِ ۞

م ت

م ج

م ح

علیہ من لصلوٰۃ فضلہا ومن لہجات الکلبا معی مہ کے بہت سراہا گیا علی المبالغۃ بہ نام سہمت
 فرجام حضرت سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین کا بیٹے عبداللہ کے وہ بیٹے
 عبدالطلب کے وہ بیٹے ہاشم کے وہ بیٹے عبدالمناف کے اونکے پہلے کوئے اس نام
 کے ساتھ نامزد ہوا تھا اور اس نام کا آدمی ہمیشہ مبارک ہوتا ہے مسلمان کو چاہیے کہ
 اپنی اولاد کو تبرکاً اس نام سے پکارے اور ادب سے بلاوے فی النجر اذا سمیت الولد
 محمداً فاکرموہ واوسوالہ فی المجلس وافخوالہ وجہاد ایضا من رزق لثلثۃ من الولد فلم
 یسم احدہم محمد افہو من الجاہلین محمود و سہرا گیا اور مقام محمود نام ایک جگہ کا
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوگی اور آپ وہاں کہے ہو کر شفا
 امت کی فرماوے گے محض بچے کے جگہ اور پرلے کے محض حین اور
 کی جگہ محیط گہیر نیوالا اور خوب جاننے والا محیط گہیرنے والی محسن
 نیلے کر نیوالا محسنون نیلے کر نیوالے محسنات نیلے کر نیوالیاں محرم
 حرام کیا گیا محرم حرام رکھی گئی محرم و م بے نصیب اور بے روزی کیا گیا
 محرمون بی نصیب لوگ محال کر اور واؤ کرنا محلی حلال جاننے والے
 محال قربانی کی جگہ اور منزل محلتہ قربانی کی جگہ محکمۃ مضبوط کی گئی
 محکات مضبوط کی گئیں اور وہ آیتیں کہ معنی برادر دلالت صریح کہیں
 اور کچھ شبہ ہو ضد متشابہات کی محضتہ مضبوط کی گئی محضنین مرد کج
 کرنے والے اور اپنے کو لگا رکھنے والے محضات عورتیں خاوند کی گئیں
 محض روبرو کیا محضرون حاضر کے گئے وہ محض حاضر کیا محض
 آزاد کیا محضراب بالاخانہ اور مسجد میں امام کے کہے ہونے کے جگہ سوا
 کہ جگہ لڑنے کی شیطان سے ہے محاریب بالاخانے میں جلانے والا
 محب اجبتا محونا مٹا یا بنے محط کرانے کرنے والا اور حقیر بنایا والا

سرکھانی کی جگہ مُذکّر یاد کرنے والا اور نصیحت ماننے والا مُذَمِّن نام حضرت
 شیب علیہ السلام کی بستی کا مُذَامِن بستیاں مُذِئُونِ مزدوری دئے
 گئے اور خوار کئے گئے مُذَامَتَانِ دو سبز باغ مائل بسیاہی مُذِہُونِ
 دین میں سستی کرنے والے مُذَرِکُونِ پائے گئے مُذَمِّنِ دالے
 م ذ گئے اور پہلائے گئے پ ذ فضل المیرم مع الذال پ ذ مُذَمُّومِ بیت
 کیا گیا مُذَرُّومِ بد کہا گیا مردود مُذِکُورِ ذکر کیا گیا مُذِکِرِ یاد کرنے والا
 مُذَمِّنِ باور کرنے والے مُذِذِئِنِ ادھر کئے گئے ۔

۴ ر فضل المیرم مع الرار

مُرْمِمْ نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا بیٹے عمران کے قصہ
 اونکا قرآن میں مذکور ہے مَرْوَةٌ نام ہے پہاڑ کا کلمے میں مَرَّةٌ زور آور
 عقل و مَرَّةٌ جبریل علیہ السلام مَرَّةٌ ایک بار مَرَّتَانِ دو بار مَرَات
 کئی بار مَرَّتِہ شک مَرَارِشک اور جگڑا کرنا مَرَّتَ گزنا مَرَّتَ گزرا وہ
 مَرَّتُوا گزے وہ مَرَّتْ گزے وہ مَرَّضٌ بازگشت مَرَّرَ مرد مَرَّضِنِ
 آزار اور بیمار ہونا مَرَّضِنِ بیمار مَرَّضِنِ بیمار مَرَّضَتُ بیمار ہوئیں
 مَرَّضِنِ پسندیدہ مَرَّضِنِ پسندیدہ مَرَّضَاتِ خوشیاں مَرَّضِنِ
 دہوکا مَرَّجِ بلا یا اوسنی مَرَّجِ اترا نا مَرَّجِ بیچنے والا مَرَّجِ
 بیچنے والے مَرَّجِ بھیجا گیا مَرَّسَلُونِ بھیجے گئے مَرَّسَلِ مَرَّسَلِ
 بھیجے والے مَرَّسَلَاتِ بھیجکین یعنی ہوائیں مَرَّسَمِ بہا گئے کے جگہ
 مَرَّکُومِ جمع کیا گیا مَرَّقُومِ کھ گیا مَرَّزُوقِ کھ گیا اور
 جو کام کہ اوس سے فائدہ حاصل ہو و سے مَرَّزُوقِ کھیاں
 مَرَّزُوقِ کھ گیا کرنا مَرَّو ۛ

پہرنا اور قبول کرنا مرؤ و احد سے گزرے وہ اور ضد کی ادہون نے مرند سر
 اور مرند مرؤ و اور دیکھا گیا مرؤ و دون پہرے گئے مرند راہ بر مرصا د
 گذر گاہ اور کمین گاہ مرصد جگہ انتظار کے مرقد خواب گاہ مرؤ و فینر بیچے سے
 آنے والے مرؤ و انعام دیا گیا مرصنعة دودہ بلا نیوالے یعنی دائی مرصنح
 دایان اور دودہ پلائی کی جگہ یعنی چہاتیان مرؤ و فوع اوہا یا گیا مرؤ و فوع اوہا
 گئے مرؤ و کثادی جگہ مرثاب شک کرنے والا مرؤ و قبتون انتظار کرنے
 والے مرؤ و عی گہاس اور مرنا مرسی نہیں نا اور نہیں آیا گیا مرری بچنے والا مرؤ و حمتہ
 ہر بانی کرنی اور شفقت مرؤ و صوص مضبوط کیا گیا مرؤ و جوبین سنگار کئے
 گئے مرؤ و خون دیر کئے گئے مرؤ و اامید رکھا گیا مرؤ و ب گمان کرنے والا
 مرؤ و جان چہوٹا موتی اور مونگا اور ابرصورت میں یہ لفظ فارسی ہی مرؤ و جوبین
 فساد کرنے والے مرؤ و بنین رحم کئے گئے یہ فصل المیس مع الزار
 مزاج ملانا اور ملونی مرؤ و خرح سہ کا نیوالا مرند زیادہ کیا گیا اور بہت
 مرؤ و قتم پہاڑے گئے تم مرؤ و قتا پہاڑا بننے مرؤ و قتل جہرٹ مارنے والا
 مرؤ و ن بدلی سفید مرؤ و حات تھوڑے اور ناقص مرؤ و جردا ناٹا گیا اور روکا گیا

مز

فصل المیس مع السین

مسنور جادو کیا گیا مسنور زون جادو کئے گئے مسنورین جادو کئے گئے
 اور محتاج کئے گئے مسنورین قید کئے گئے مسنورین نشان کر نیوالے
 مسنورین نشان کئے گئے مسنورین نشان کی گئی اور جہرائی گئی اور پالی گئی
 مسکنین محتاج کچھ نہ کہے یا بقدر کفایت نہ کہے مساکین محتاج سب مسکن
 محتاجی مسکن مکان مساکین گھر سب مسکنین پسی گئی وہ مسنون گندا
 اور مسنور یا گیا اور صورت بنا یا گیا اور روشن کیا گیا مسنورین سیدنا اور درست

مس

بی خلل اور صراطِ مستقیم راہِ شرعی کی مستقیم ہونے والی مستطیر
 پہلنے والا اور ظاہرِ مشطر لکھا گیا مستطور لکھا ہوا مستطیر ہونے لکھیاں
 سب مشجور بہر گیا اور گرم کیا گیا مشجور چہا گیا مشجور مضبوط اور
 روان مشجر فرمان بردار کیا گیا مشجر است فرمان بردار کی گئیں مشجر
 تابعہ از مسلمان مشجرون مسلمان سب مشلمات مسلمان عورتیں مسلمتہ
 سوئے گئے اور اعتبار کی گئی مسجد سجدہ کی جگہ اور عبادت خانہ مسلمان کا
 مساجد مسجدین مسد موج اور بالونکی رسی اور کچھور کے چہاں وغیرہ کی ہسی
 مسندۃ دیوار بند کی گئی مسخ چہونا اور جلع کرنا مسخ چہونے والا اور
 مسحت کرنا والا لقب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہے کہ انکے
 چہونے سے اندھا بینا ہوتا تھا اور برص اچھی ہوتی تھی مسخ نام رکھا گیا مستغفرین
 مغفرت چاہنے والے مشجہ بہوک مسخ چہونا اور دیوانہ ہونا مسخ چہوا
 مشجہوات میساس چہونا مسندۃ عیناہ کی جگہ اور امانت کے جگہ
 مستمع سنا بنوالا مستمع سنا گیا مستمع ستی والا مستمعون سنی
 مسافحین زنا کرنے والے اور ستی بخانے والے مسافحات بد کاری کرنی
 والین مستفوح گرایا گیا مستضعفون ناتوان کمزور سب مشرف اسراف
 کرنی والا مشرفون اسراف کرنی والے مستقدین آگے ہونے والے
 مستاجرین بچہ رہنے والے مستکر عذر کرنے والا مستکرون عذر
 والے مسود کالاکیا گیا مسودۃ کالی کی گئی مسنول پوچھا گیا مسنولون
 پوچھے گئے مستبلون گردن رکھنے والے اور سہہ کرنے والے مستمکون
 مضبوط پکڑ بنوالے مستحون تسبیح پڑھنے والے مستبین ظاہر اور روشن
 مستبصرین بصارت رکھنے والے مستقیمین یقین کرنے والے مستقبل آگے

آنے والا **مُسْتَقْرِبٌ** نیا والا **مُسْتَقْرِبٌ** میرا یا کیا **مُسْتَقْرِبٌ** بانی بہا یا گیا
مُسْتَقْرِبٌ سبت کے گئے یعنی پیچھے رہنے والے **مُسْتَقْرِبٌ** نامت
ہونے والے **مُسْتَقْرِبٌ** بات سننے والے اور اس پر نیا والا **مُسْتَقْرِبٌ**
بہا گئے والے **مُسْتَقْرِبٌ** خوش ہونیا والے **مُسْتَقْرِبٌ** مدد جا گیا
مُسْتَقْرِبٌ جانا اور کسبنا **مُسْتَقْرِبٌ** و خوش کیا گیا **مُسْتَقْرِبٌ** سفید اور روشن
ہونے والے **مُسْتَقْرِبٌ** بد شکل کیا بنے **مُسْتَقْرِبٌ** مکے سے بدکار
مُسْتَقْرِبٌ چھینے والا ایسے آخو سے گر گئی **مُسْتَقْرِبٌ** مع **مُسْتَقْرِبٌ**
مُسْتَقْرِبٌ گچ کیا گیا اور مضبوط بنا یا گیا **مُسْتَقْرِبٌ** مضبوط کے گئے اور
گچ سے بلند کے گئے **مُسْتَقْرِبٌ** فرشتوں کے حاضر ہونے کے جگہ اور
گو اہی دینے کے جگہ **مُسْتَقْرِبٌ** گو اہی دیا گیا اور دن عرفے کا اور روز قیامت
مُسْتَقْرِبٌ جاہی ناز اور شعر **مُسْتَقْرِبٌ** نام جگہ کا ہے کے میں **مُسْتَقْرِبٌ**
بدلا شکر کا دیا گیا **مُسْتَقْرِبٌ** آفتاب نکلنے کے جگہ **مُسْتَقْرِبٌ** دو جگہ
آفتاب نکلنے کے یعنی بارے اور گرمی کے اور **مُسْتَقْرِبٌ** سے مراد
مشرق اور مغرب ہے **مُسْتَقْرِبٌ** آفتاب نکلنے کے جگہ
یعنی ہر روز کے علاوہ ہے **مُسْتَقْرِبٌ** اشراق کرنے والے اور روشن
کرنے والے **مُسْتَقْرِبٌ** ڈرنے والے **مُسْتَقْرِبٌ** شرک کر نیا والا **مُسْتَقْرِبٌ**
مُسْتَقْرِبٌ شرک کر نیا والا **مُسْتَقْرِبٌ** شرک کر نیا والا **مُسْتَقْرِبٌ**
مُسْتَقْرِبٌ شرک ہو نیا والا **مُسْتَقْرِبٌ** ہر اہوا **مُسْتَقْرِبٌ** شامت
اور بائیں طرف والے اور اصحاب **مُسْتَقْرِبٌ** گہاٹ یعنی
پینے کے جگہ اور پینا **مُسْتَقْرِبٌ** گہاٹ سب **مُسْتَقْرِبٌ** طاق کہ جس میں
مُسْتَقْرِبٌ یا چراغ رکھیں **مُسْتَقْرِبٌ** چلنے والا **مُسْتَقْرِبٌ** ہے وہ **مُسْتَقْرِبٌ**

مہن

ڈالنے والا

فصل المیم مع لصاد

م ص

مُضَلِّح سنوارنیوالا اور صلاح کرنے والا **مُضَلِّحُونَ** درست کرنے والے
مِضْبَاح چراغ **مِضْبَاحٌ** بیچ چراغ سب **مُضْبِحِينَ** صبح کنی والے -
مُضَيِّطِر نگہبان **مُضَيِّطِرُونَ** داروغے **مِضْر** شہر اور نام ہے
 ایک شہر شہور کا **مُضَيِّر** پرنے کے جگہ **مُضَوِّر** نقشہ بنانیوالا صفت ہے
 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فتح و اوپر پڑنا کفر ہے **مُضَمِّر** زرد کیا گیا
مُضْمِنِي صاف کیا گیا **مُضْطَفِنِينَ** پسند کے گئے **مُضَدِّق** سچا نیوالا
 اور باور رکھنے والا اور صدقہ لینے والا **مُضَدِّقِينَ** باور کرنے والے
مُضَدِّقَات سچا نیوالیاں **مُضَرِّف** پرنے کی جگہ **مُضَرِّفُونَ** پیر گیا
مُضْفُوذَة صفت باند ہے گئے **مُضَلِّ** نسا کے جگہ
 اور عید گاہ **مُضَلِّينَ** نماز پڑھنے والے اور درود
 پہنچانے والے **مُضَايِع** شلعے اور کنوین اور حوصن سب
مُضْرَج نریاد پہنچنے والا **مُضَيَّب** پہنچنے والا اور
 جواب دینے والا **مُضَيَّبَة** پہنچنے والے اور تکلیف اور آفت

م ص

فصل المیم مع لصاد

مُضَاعَفَة دونا کرنا اور بڑھانا **مُضَاعِفُونَ** دونا کرنیوالے
مُضَفَّة بونی **مُضْطَر** پہنا ہوا اور لاچار **مُضْطَار**
 نقصان پہنچا یا گیا **مُضْجَع** خواجگاہ میں اور بھونے
مُضَع گزرنے **مُضَع** گزرا **مُضْت** گزری **مُضِل** بہکانیوالا
مُضَلِّينَ گمراہ کرنے والے اور ہیکانے والے

فصل المیم مع الطاء

مَظْهَرٌ مِیْنَهُ مَظْهَرٌ پاك كرنیوالا مَظْهَرٌ زَوْنٌ پاك كئے كئے مَظْهَرَةٌ پاك كی كز
 مَظْهَرٌ عِیْنٌ اپنی طرف سے دینے والے اور دل کہوں کر حرج کرنے والے
 مَظْهَرٌ سَوْرَجٌ بھنے کی جگہ مَظْهَرٌ جَاہُگیا مَظْهَرٌ عَوْنٌ جہانگنے والے اور وقت
 مِیْنِیوالے مَظْهَرٌ فَرمانبرداری کیا گیا مَظْهَرٌ اطمینان پکڑنیوالا مَظْهَرٌ عِیْنٌ
 آرام پکڑنیوالے مَظْهَرٌ تے پانیوالے اور نفس مطمئنہ کہ بی یاد الہی کے آرام پکڑ
 جیسے نفوس انبیاء علیہم السلام کے ہیں مَظْهَرٌ عِیْنٌ گہنا نیوالے اور کم تو لنے والے
 مَظْهَرٌ طَلَقٌ دی گئیں مَظْهَرٌ یَاتٌ پیے گئیں

فصل المیم مع الظاء

مَظْهَرٌ اَنْدِیْرٌ اكرنیوالا مَظْهَرٌ اَنْدِیْرٌ اكرنیوالے مَظْهَرٌ نَاحِقٌ سٹا یا گیا۔

فصل المیم مع العین

مَعْذِرَةٌ بہانہ مَعْذِرٌ زَوْنٌ بہانے کرنے والے مَعْصِرَاتٌ چھوڑنیوالیاں اور
 بدلیاں کہ برسنی کی نزدیک ہو دین مَعْزُوسَاتٌ اونچے کی گئیں اور چترے
 بنائی گئیں مَعْقِبٌ پیچھے ڈالنے والا مَعْقِبَاتٌ ایک کی پیچھے ایک آئیوالے
 مراد فرشتے رات دن کے ہیں کہ ایک کی بعد ایک آتی ہیں مَعْرَةٌ گناہ اور شر
 اور نقصان معاویہ پرہنی کی جگہ اور عالم آخرت معاویہ پناہ اور جامی پناہ مَعْزُورٌ
 گنا گیا اور چیز تھوڑی مَعْزُودَةٌ گنی گئی مَعْزُودَاتٌ گنی گئیں اور ایام محدودت
 سے مراد ایام تشریق ہیں مَعْمَرٌ بی قرار محتاج مَعْمُورٌ آباد کیا مَعْمَرٌ بوڑھا
 عمر دراز کیا گیا مَعَاذِیْرٌ پردے اور بہانے مِعْشَارٌ ذسوان حصہ مِعْشَرٌ دس
 دس اور جماعت کہ آپس میں عشرت اور زندگانی کرے مَعْمَرٌ بکری مِعْشَرٌ
 روزگار اور زندگانی مَعِیْشَةٌ گذران مَعَالِیْشٌ روزیاں مَعٌ ساتھ

مَعْرُوف پہا گیا اور شروع مَعْرُوفۃ پہا جانی گئی مَعْلُوم جانا گیا اور حق معلوم
 زکوٰۃ ہے اور یوم معلوم دن قیامت مَعْلُومات جانی گئے اور ایام معلومات سی
 مراد سدن بین اول مہینے ذیحجہ کے مَعْرُوفین روکنے والے مَعْرِیْل کنارہ
 مَعْرُوفُونَ ایک طرف کئے گئے اور موقوف کئے گئے مَعْطَلۃ نکلی بیکار کی گئی
 مَعْلَم سکھا گیا مَعین چشمہ اور آب روان مَعَارِج سیڑھیاں ذمی المہاج
 حق سبحانہ و تعالیٰ مَعْجَز عاجز کر نیوالا مَعْجَزِیْن تہکانیوالے مَعَاخِرِیْن
 ہرانیوالے مَعْرِضُونَ منہ پھیر نیوالے مَعْدِب عذاب کر نیوالا مَعْدَبُؤُ
 مَعْدَبِیْن عذاب کر نیوالے مَعْدَبِیْن عذاب دیئے گئے مَعْلَقۃ اوپر کی گئی
 مَعْصِیۃ گناہ مَعْتَد حد سے بڑھنے والا مَعْتَدُونَ حد سے بڑھنے والے
 اور سرکشی کر نیوالے مَعْتَبِیْن خوش کئے گئے اور رفع عتاب کئے گئے یعنی
 منائے گئے مَعْكُوف اوندھا گیا ۛ فصل المیسیم مع لغین ۛ
 مَعْرِب آفتاب ڈوبنے کے جگہ مَعْرَبِیْن دو عزوب کی جگہ یعنی جارے
 اور گرے کی مَعَارِب بہت مغرب ہر روز کے مَعْمُتُوب غصہ کیا گیا
 مَعَاضِب غصہ ہر مَعْلُوب دبا گیا مَعْشِیْ بیہوش کیا گیا مَعْرَم
 تاوان اور جکا دینا ضرور ہو مَعْرَمُونَ قرضدار کئے گئے پہنائے گئے
 مَعَاظِم غنیمتیں کہ کافرون سے ماہتہ آوین مَعَارَات گڑھے مَعْرِیَات
 لوٹنے والیاں مَعْتَسَل رہانی کی جگہ مَعْرُوفُونَ ڈبائے گئے مَعْمُون بچا
 والے اور بے پروا کئے گئے مَعْفِرۃ بخشنا مَعْلُولۃ بند کئے گئے اور یاد
 مَعْلُولۃ سے مراد جیل ہے العباد باعد مَعْتَبِر بدلنے والا ۛ ۛ

م غ

فصل المیسیم مع الفار

معارز پہنچا اور فتح پانی معافۃ میدان اور فتح پانی کی جگہ مَعْرَبِیْ کی جگہ

م ف

دھیر کے گئے یعنی زیادہ کی گئی **مُقْتَبِت** گناہ اور عرصہ **مُقَبِّت** تو انا اور
 گواہ اور روزی دینے والا **مُقْصُورَات** مستورات یعنی چھاپی گئیں
مُقَبُوضَةٌ قبضہ کی گئی **مُقَرَّبُونَ** نزدیک کئے گئے اور مرتبہ دیئے گئے
مُقَرَّبَةٌ نزدیک اور ذامقربہ قرابت والا **مُقْسِطِينَ** انصاف کرنے
 والے **مُقْتَدُونَ** پیروی کرنے والے **مُقَضَّةٌ** ادا کیا گیا **مُقْبِل**
 آرا مگاہ اور دوپہر کے سونیکا وقت **مُقَدَّس** پاک کیا گیا **مُقَدَّسَةٌ** پاک
 کی گئی اور ارض مقدسہ زمین شام ہے **مُقَرَّرُونَ** کما نیوالی **مُقَبُوضِينَ**
 بدی کئے گئے **مُقْضَرِّينَ** بال کترانے والے اور قصور کرنے والے
مُقْسِنِعِ سراوٹھانیوالے **مُقْوِينَ** جیکل کے رہنے والے اور سا فراور
 محتاج **مُقَابِرِ** قبرستان **مُقْتَحِمِ** درمیان میں آنے والا اور دینے والا

فصل المیم مع الکاف

مکتہ نام شہر کا ہے کہ مولدہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ہے جس میں بیت اللہ مطاف عالم کا ہے **مُكَا** رسیدے بجائے **مُكَلِّمُومِ** عرصہ
 بہرا ہوا اور غلگین **مُكْرِمِ** عزت دینے والا اور نوازنے والا **مُكْرَمُونَ** عزت
 دیئے گئے **مُكْنَالِ** پیمانہ اور مانپ **مُكَّانِ** جاے اقامت
مُكَّانَةٌ جگہ **مُكْتَنِ** قوت دی اور جگہ دی اوسنی **مُكْتَنِ** زور دیا
 ہنے اور جایا اور جگہ دی ہنے **مُكَيْنِ** مرتبہ والا **مُكْتُونَ** چھپایا
 کیا **مُكَيِّدُونَ** مکر کئے گئے اور بدلا دیئے گئے **مُكْرَا** مکتبت سرنگون
 کرنے والا **مُكْتُوبِ** لکھا گیا **مُكْدِبُونَ** جھلانے والے **مُكْدُوبِ**
 جھلایا گیا **مُكْتَشِ** دیر کرنے اور پھیرنا اور انتظا **مُكْتَشِ** دیر
 کے اوسنے اور پھیرا وہ **مُكْرَحِيْدِ** کرنا + +

مکر و اڈا گیا اور مکر و اڈا کیا اور ہونے لگے مکر و اڈا فریب دیا تھے مکر و اڈا
 حید کیا تھے اور بدلا چیلے کا دیا تھے مکر و اڈا فریب دیا تھے مکر و اڈا
 مکر و اڈا تکریم دیے گئے مکر و اڈا ناگوار ہے فصل المیم مع اللام
 ملک فرشتہ مملکین دو فرشتے یعنی ماروت اور ماروت ملائکہ فرشتہ
 ملک پادشاہی اور پادشاہ ہونا ملک پادشاہ ملوک پادشاہ
 سب مملکت شہنشاہ مملکوت پادشاہی اور مملکت السموات نام عالم
 ارواح کا ہے قلم اعلیٰ سے اور نفس ناطقہ انسانیہ تک مملکت مالک ہوئی
 اور مملکت انبیاء و بانی اور غلام مملکت مالک ہوئی تم ملک اختیار
 اور قدرت ملوم ملامت کیا گیا ملومین ملامت کئے گئے ظہیر سزا و
 ملامت ملتحد پناہ کی جگہ مملکت مذہب اور اصول عقائد ملائکہ گروہ اور
 مصاحب اور مردم اشرف ملائکہ پیرنا مملکت پیرے گئے وہ ملتحد
 اور زمانہ تہورا مملکت پناہ کی جگہ مملکت داننے والی مملکت مملکت والی
 اور اوتار نیوالیان صفت فرشتوں کی ہے مملکت ذکر اڈا ملائکہ
 ملاقات کرنیوالا ملائکہ ملنے والے دیکھنے والے مملکت مملکت پیرے گئے
 اور مانگے گئے مملکت لعنت کی گئی مملکت اور کبار اڈا

۴۱

فصل المیم مع اللام

ممر و جرد آیا گیا اور بنا چکتے ہوئی اور صاف اور بلند ممر مدد دینے والا
 ممر و کہنی گیا ممر و دراز کی گئی اور لہنی کی گئی ممر و برسا نیوالا
 ممر و گمان کرنیوالے ممر و پہاڑ گیا اور پہاڑ نا ممر کس چیز سے
 ممر اس چیز سے ممر کس شخص سے یہ الفاظ مرکب ہیں مملکت
 غلام مملکت روکنے والا مملکت روکنے والیان اور منع کرنیوالیان

۴۲

ممنون احسان رکھا گیا اور نقصان کیا گیا اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
 ثواب نہ کم کیا گیا ممنون سے منع کے لئے عَمَاتٌ مرنا اور مردہ پڑ

فصل المیم مع النون

من

من کون اور وہ شخص اکثر شمال اکاذوی العقول میں آتا ہے بخلاف
 ما کے میں سے حرف جر ہے من ترنجبین من احسان کرنا اور نعمت
 دینی اور کم کرنا من احسان کیا اوسنے منثا احسان کیا ہننے سے نطفہ
 کہ جس سے بچہ پیدا ہووے ممنون زمانہ اور رب المنون حوادث روزگارا
 مننتہ انتہا کیا گیا اور آخر کو پہنچا گیا مننتہون بازر ہننے والے
 اور آخر کو پہنچنے والے منذر ڈرانے والا منذر ون ڈرانے والے
 منذرین ڈرائی گئے مننتے بہلایا گیا منادی بلا نیوالا اور پکار نیوالا
 وَقَدْ يَجْدُ الْيَاءُ بِمَنَامٍ سَوْنًا اور جگہ سونے کی منسک قربانی کی جگہ
 اور عبادت کا مقام مناسک حج کے کام منطبق بات اور بات کہنی اور
 منطق الطیر چڑیوں کے بات کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ
 نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تعلیم فرمائی تہ منافعون دودلے یعنی
 جو کہ زبان سے کلمہ کہیں اور دل سے منکر ہووین یا شک میں پڑے ہوں
 اور کہیں منافق مسلم ضعیف الایمان کو یہی کہتے ہین فی الحدیث علامۃ اللہ
 ثلاثہ اذا حدث کذب و اذا رمتن خان و اذا خاصم فجر و اذا منافقات دونه
 والیان عورتین منافقون کی منفقون خرچ کرنے والے منع بہیر کہا
 مناع بڑا بہیر رکھنے والا منوع ندینے والا اور منع کرنیوالا مناص بہان
 اور چاہ منفقوس پر اگندہ کیا گیا اور جدا کیا گیا اور دہنے ہوئی منسکرتہ
 انکار کرنیوالی منکرون انکار کرنیوالی منکر انکار کیا گیا اور نہ پہچانا گیا اور خلاف شہرہ

مُشْكِرُونَ غَيْرِ مَعْلُومٍ یعنی نہ پہچانے گئے مُشْكِرُونَ موتی نا پر ویالک اور
 چیز بکھری اور پراگندہ کی گئی مُشْكِرُونَ پراگندہ کیا گیا اور فرمان کہا مُشْكِرُونَ
 پراگندہ اور بکھرا ہوا مُشْكِرُونَ اور ہٹائے گئے مُشْكِرُونَ کہولے گئے
 اور پراگندہ کے گئے مُشْكِرُونَ مینہ اور برسی والا مُشْكِرُونَ سے اکھڑا ہوا
 مینہ ساج راہ سیدی مُشْكِرُونَ گلا گھونٹے ہوئے مُشْكِرُونَ تہ بہ تہ
 جایا گیا مُشْكِرُونَ راہین زمین کی اور کا ندھے آدمیوں کے مُشْكِرُونَ
 اللہ کی طرف رجوع کر نیوالا اور دانت نکالنے والا گڑ گڑانیوالا مُشْكِرُونَ
 رجوع کرنے والے مُشْكِرُونَ پہرا گیا اور جگہ پر جانے کے مُشْكِرُونَ
 پہر نیوالے مُشْكِرُونَ اوتار گیا مُشْكِرُونَ اوتار نیوالا مُشْكِرُونَ اوتار نیوالا
 مُشْكِرُونَ اوتار نیوالے مُشْكِرُونَ اوتارے گئے مُشْكِرُونَ اوتارنے کے
 جگہ میں مَنَافِعُ فَاوَدَے مُشْكِرُونَ ہلت دی گئے مُشْكِرُونَ نَظَا
 کرنے والے مُشْكِرُونَ کم کیا گیا مُشْكِرُونَ نجات دینے والے نون گر گیا
 مُشْكِرُونَ مدد کیا گیا مُشْكِرُونَ مدد کئے گئے مُشْكِرُونَ بدل لینے والا
 مُشْكِرُونَ داد لینے والے مُشْكِرُونَ بدل لینے والے مَنَافِعُ
 عصا مُشْكِرُونَ اٹھائی گئیں اور کشتیاں بادبان کھینچے گئیں مُشْكِرُونَ
 پیدا کرنے والے مَنَافِعُ نام ہے بت کا یا پتھر کا کہ ہزلی اور خندہ
 طواف اوسکا کرتے تھے اور اہل قدید اور مسل اور بنو کعب بھی اوسکو
 پوجتے تھے بعد ظہور نوزہ سلام کے گنام ہو گیا مُشْكِرُونَ پراگندہ
 کیا گیا مُشْكِرُونَ پہننے والا مُشْكِرُونَ جدا ہونے والے مُشْكِرُونَ

فصل ایس مع الواو

اور چکنے والا :
 مونسے علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نام ہے ایک پیغمبر عظیم الشان کا

بیٹے عمران کے قصہ اور نکاح آن میں خوب مذکور ہے اہل میں
 میثا تھا عرب نے یا اور پشین کو واو اور ستین سے
 بدل کیا اور فضوص میں ہے کہ آل فرعون نے جب اونکو
 عین اشس میں نیچے درختوں کے پایا فرعون موسے نام
 رکھا اس واسطے کہ مو قبطے زبان میں پانے کو کہتے ہیں اور
 سا درخت کو مؤولے مردے مؤوت مرنا اور
 بے حس اور بے حرکت ہونا مؤولوا مرد تم مؤولے
 دوست اور ہمایہ اور آزاد کرنے والا اور آزاد کیا گیا
 مؤوالے دوست سب مؤولے منہ پھیرنے والا
 مؤولفکۃ پھرنے والے مؤولفکات اولٹنے
 والیان نام ہے لوط علی السلام کے بستیوں کا کہ
 اللہ نے انکو اوندھا کر دیا مکتا مؤولفدۃ اگ سلگانی
 گئے مؤولفونۃ جو اہر سے جڑے ہوئے اور دو
 دو حلقے بنے گئے مؤولفوت وقت کیا گیا مؤولفیت
 وقت سب جمع میقات کے مؤولفدۃ موندے گئے
 مؤولفدۃ جیتے گاڑنے گئے مؤولفہنا اور کانپنا
 مؤولفیات آگ مارنے والیان اور آگ پھرنے سے
 نکالنے والیان صفت گھوڑوں کے ہے کہ اس کے
 نمون سے آگ نکلتے تھے مؤولفوجنا گیا
 اور بچنے کا وقت مؤولفدۃ وعدہ کے جگہ مؤولفدۃ

وعدہ مَوْثُوقٌ وعدہ کیا گیا مَوْأَجْرٌ پانی پہاڑ نیوالیان اور پانی میں چلنے والیان
مَوْثُوقٌ بہت کیا گیا مَوْضُوعٌ سبکے گئے مَوْاضِعٌ جگہ رکھنے کی مَوْاقِعٌ گرنیکی جگہ
مَوْاقِعُ اگر نیوالے مَوْثُوقٌ عہد اور بیان مَوْثُوقٌ ہلاکی کی جگہ مَوْثُوقٌ باور
کرنیوالا اور مضمون لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کو دل سے اعتقاد کر نیوالا
اور کفر اور کافر سے بیزار ہو نیوالا مَوْثُوقٌ ایمان لانیوالے مَوْثُوقٌ ایمان
لانیوالی مَوْثُوقٌ ایمان لانیوالیان مَوْثُوقٌ پورا دینے والے مَوْثُوقٌ
خوب پورا دینے والے مَوْثُوقٌ وصیت کرنے والا مَوْثُوقٌ تو نگر اور فراخی
کرنے والا مَوْثُوقٌ فراخ کرنے والے مَوْثُوقٌ وعدہ کیا گیا مَوْثُوقٌ
دینے والے اہل میں مویوں تھا مَوْثُوقٌ لکڑی سے ماری گئی کہا نا اوسکا
حرام ہے مَوْثُوقٌ باری اور دوستی کرنی مَوْثُوقٌ تو لایا مَوْثُوقٌ ترازو
مَوْثُوقٌ العنت کی گئی مَوْثُوقٌ نصیحت مَوْثُوقٌ زمین اور کہنے کی جگہ
مَوْثُوقٌ جگہ لڑائی اور اقامت کی مَوْثُوقٌ لہر پانی کی مَوْثُوقٌ وار د کیا گیا
مَوْثُوقٌ جگہ پرے کی مَوْثُوقٌ یقین کرنے والے مَوْثُوقٌ کہے
کئے گئے مَوْثُوقٌ سست کرنے والا مَوْثُوقٌ خبر دار کرنے والا

فصل المیم مع الہاء

مہینہ گواہ اور نگاہ بان اور مہربان اہل میں مہینہ مہزہ سے تھا
اوسکوٹا سے بدل کیا مہینہ خوار کرنیوالا اور ذلیل کرنیوالا مہینہ خوار
اور ذلیل اور مہینہ نطفہ ہے لاہانۃ الطبع لها مہینہ خوار کیا
مہینہ جب ہمیں منجھ شرط کے ہیں مہینہ تانبا پگھلا یا ہوا اور پیپ مہینہ
کیا یا ہوا اور ریت مہینہ فرصت دی مہینہ سراٹھا کر گدو کرنیوالے
مہینہ بھگایا گیا مہینہ ہجرت کرنیوالا اور زمین بچانیکے واسطے وطن چھوڑنے

والا مھاجرین ہجرت کر نیوالے مہاجرات ہجرت کر نیوالیاں مہجور چوڑا
 گیا اور ناحق اور بیہودہ مہلکون پھیلنے ہلاک کر نیوالے مہلکین ہلاک
 کئے گئے مہلک خراب ہونا مہنت راہ پانیوالا مہنت دون راہ
 پانیوالے مہند گوارہ اور زمین اور چھانا مہنا اور چھونے اور فرس مہنت
 مہیا کیا مینے اور تیار فرمایا مینے **ب** فضل المیسم مع البیار **ب**
 مینگال نام فرشتے کا ہے کہ مینہہ برسائے پر مقرر ہے اور علم ازراق اوس
 سے علاقہ رکھتا ہے اور غص اور نافع نے میکا عمل اور میکا عمل بڑا ہے
 مینتہ مردار مینت مردہ مینت مرنیوالا مینت مرنیوالی مینتہ
 مبارکی اور ذہنی طرف اور اصحاب المینتہ اور اصحاب البین ایک ہیں یعنی
 جنے لوگ مینسیرۃ آسانی اور کشائش مینسور آسان اور آسان ہونا
 مینسیر جو اور جو کہینا مینل شیر ہونا اور ظلم کرنا مینتہ ایک بار چمکتا
 اور خواہش کرنے مینسیر ان تر ازو مینعا دوعده کرنا اور وعدہ کے
 جگہ مینسیراٹ مال مردہ مینقات وقت مینشاق عہد اور اقرار

م می

باب النون

ن یہ حرف مشابہات سے ہے لغت میں معنی ایک دوات اور ماہی کے
 آئے ہیں اور مفسرین سے دونوں معنی مذکور ہیں اور مچھلے بعضے مطلق ارادہ
 کرتے ہیں اور بعضے خاص وہ مچھلے کہ یونس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
 مچھل گئی تھی کہتے ہیں اور بعضے وہ مچھلے ارادہ کرتے ہیں کہ تمام زمین اوسکے
 پیٹہ پر ہے اوسکا نام بہوت یا بہلوت ہے اور ایک نون آخر احوال میں
 آتا ہے معنی اسکے تاکید کے ہوتے ہیں وہ دو قسم ہے ثقیلہ اور خفیفہ اوسکے
 تفصیل صرف کی کتابوں میں خوب ہے اور ایک نون وقایہ ہوتا ہے کہ آخر

ب

افعال اور حرف مشبہ بالفعل میں واسطے صیانت کے کسرہ سے لاحق ہوتا ہے اور اس کے کچھ معنی نہیں ہوتے ہیں :

فصل النون مع الالف

ناہم نما دور ہوا تاہ آگ اور دوزخ لکھا ہے کہ دنیا کے آگ شتر وان جسز ہے دوزخ کے آگ کا ٹکس آدمی سب نائشتمہ رات کا اوٹہنا اور اول ساعتین رات کی ناکل کہاتے ہیں ہم نائشرات پر اگندہ کرنے والیان مراد ہوا ہے کہ ابر کو منتشر کرتی ہے باپانی کہ روئیدگی کو پر اگندہ کرتا ہے نائشطات کہولنے والیان اور باہر کرنیوالیان مراد یہاں فرشتے رحمت کے ہیں ناصبہ کھڑا کرنیوالی اور رنج اوٹہانیوالی ناصبہ پیشانی اور اس کے بال نافعہ زیادہ اور الغام اور پوتا اور بخشش غیر واجب نازعات کہنے والیان اور جان نکالنے والیان مراد اس سے فرشتے موت کے ہیں ناصبرۃ تاز سے ہو نیوالے ناصبرۃ آسایش کرنے والی ناصبرۃ دیکھنے والے ناظرین دیکھنے والے صبر مدد کرنے والا ناصبرین مدد کرنے والے ناصبرۃ ناصبرۃ اور بعضے ناصبرۃ کو بعضے صور کے کہتے ہیں مجازاً ناصبرۃ نصیحت کرنیوالا ناصبرۃ نصیحت کرنیوالے ناومی آواز دی اور بلا یا اوسنی ناڈوا بلا یا اوٹہون نے ناڈت بلا یا اوسنی ناڈیتم بلا یا تھنے ناڈینا پکارا ہینے ناومی مجلس اور جمع ہونی کی جگہ ناومی آتی ہیں ہم اور لاتے ہیں ہم کوئی لے دینگے ہم کوئی لے دیے جائینگے ہم ناصبرۃ لیتے ہیں ہم ناصبرۃ منافق ہوئے وہ ناڈ میں پشیمان ہو نیوالے ناصبرۃ سو نیوالے ناصبرۃ منع کرنیوالے ناصبرۃ بچنے والا

نابینہ پتھر کو شہ کی تہنے ناسکوا قرابانی کرنے والے ناسکوا اور نونہ
 کہ نونہ والے ناسکوا کیوں ٹیڑھے ہونے والے ناسکوا اور نونہ اور نونہ اللہ
 وہ اور نونہ کہ حضرت صباح علیہ السلام کے معجزے سے پہلے سے
 نکلے تھے اور اصناف اللہ کے طرف تشریف سے

فصل النون مع الباء

ن ب

نبوۃ پیغمبری یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند و نکو پیغام پہنچانا ہے
 پیغمبر یعنی خبر دینے والا حشر اور شر سے اور مبدرا اور معاد سے نبیون
 پیغمبر ب نباۃ نبوۃ خبر اور نباء عظیم قیامت نباۃ
 خبر دار کیا اوسنی نبات آگاہ کیا اوسنے نبات خبر دار
 کیا میں نے سچے خبر کر تو نبوۃ خبر کر وتم نبات گہاس نبذ
 پہنکا اوسنی نبذ واپہنکا اونہون نبذ پہنکا اوسنی نبذ
 پہنکا میں نے نبذنا پہنکا میں نے نبذ پہنکا گیا وہ نبذت رات کرینگے
 اور نبذون کرینگے ہم نبذت سخت بکڑینگے ہم نبذت پہنچینگے ہم اور
 اوٹھا دینگے ہم نبذت جگہ دینگے ہم نبذت جدا ہو دینگے ہم
 نبذتے جا سکتے ہیں ہم نبذتے جا سکتے ہیں ہم نبذتے
 جا سکتے ہیں ہم نبذتے طلب کرتے ہیں ہم اور آرزو
 رکھتے ہیں ہم نبذتے خوشخبر دے دیتے ہیں ہم
 نبذتے بدل کرتے ہیں ہم نبذتے پیدا کرتے ہیں
 ہم نبذتے بیان کرتی ہیں ہم نبذتے دعا اور زاری کرینگے ہم

فصل النون مع التاء

ن ت

نقبوہ و جگہ پکڑتے ہیں ہم ہم متبیر ہزار ہوتے ہیں ہم متبیر اترتی ہیں
 ہم متبیر نص انتظار کرتے ہیں ہم متوکل بہرہ و ساعد سے برکرتی ہیں
 ہم متکلم بات کرتے ہیں ہم متقبل قبول کرتے ہیں ہم متبع پیروی
 کرتے ہیں ہم متبع پیچھے سے لاتے ہیں ہم متخذ پکڑتے ہیں ہم متوفی
 مارین گے ہم اور پورا دینگے ہم متجاوز معاف کرتے ہیں ہم اور دور ہوتے
 ہیں ہم متجاوز پڑتے ہیں ہم متقنا اوٹھایا یعنی متفرک چھوڑتے
 ہیں ہم متختلف ایک لے جائینگے ہم ۴ فصل النون مع التار
 تثبت ثابت رکھتے ہیں ہم اور برقرار رکھتے ہیں ہم ۴

نث

فصل النون مع الحمیم

نح

نجم تارا اور گھاس کہ زمین پر پھیلے اور آیت - أَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
 بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۵ میں مراعات نظر ہے اور ایہاں
 القاسم ہی کہتے ہیں نجوم تارے اور نکلنا گھاس کا جھوٹے مشورہ
 اور سرگوشی نجات بجاؤ نجات ہر ازبے بچایا اوسنی نجات خلاصی
 پائی تو نے نجات دی اوسنی نجات بچایا ممتے نجات بچایا گیا
 نجات دے تو نجات جمع کرینگے ہم نجات بناوینگے ہم نجات
 دو گھاسیان اور دو چیزیں بلند مراد دو نون چہاتیان ہیں یا خیر شہ نجات
 پالتے ہیں ہم نجات بدلادینگے ہم نجاتی بدلادیتے ہیں ہم نجات
 جواب دیتے ہیں ہم اور قبول کرتے ہیں ہم ۴ فصل النون مع الحار
 نختن ہم ضمیر متکلم مع الغیر کے ہے نختن ہر اور قوم جسند اور نختن
 بلع عوصن نختن ذمہ اور عہد اور حصہ نختن بد بخت اور نختن نجات
 برے اور نامبارک ایام نجات قوم عاد کے عذاب کے دن نختن تانبا

نح

اور آگ اور دھواں **تخشل** شہد کی کہی **تختے** جینگے ہم **تختے** جلاوینگے
ہم **تخفظ** حفاظت کرتے ہیں ہم **تخشتر** جمع کریں گے ہم **تختصر**
سامنے لاوین گے ہم **تخسرف** جلاوین گے ہم **تخمل** اوٹھالیں گے ہم

ن خ

فصل النون مع الخاء
تخجل کھجور کے درخت **تخجیل** کھجور کا درخت **تخجلتہ** ایک درخت کھجور کا
تختے ڈرتے ہیں ہم **تختسے** رسوا ہونگے ہم **تخرج** نکلیں گے ہم
تخسرج نکالیں گے ہم **تخوضن** فکر کریں گے اور گھسین گے اور کھوج کریں گے
ہم **تخفے** چپاویں گے ہم **تختتم** ہر کریں گے ہم **تخاف** ڈرتے ہیں
ہم **تخوف** ڈراتے ہیں ہم **تخسف** زمین میں دہساویں گے ہم
تخلق پیدا کریں گے ہم اور کرتے ہیں ہم **تخلف** خلاف کریں گے ہم **تخزہ**
کہو کہہ لے یعنی اندر سے خالی اور برانی گلی ہوئی اور بعضوں نے ناخرہ بڑھا ہے

ن د

فصل النون مع الراء
ندل راہ بتاتی ہیں ہم **ندے** مجلس **ندرمی** جانتے ہیں ہم **ندامة**
پشیمانی **ندار** پکارنا **ندخل** داخل ہونگے ہم **ندخل** داخل کریں گے ہم
ندخوا بلاویں گے ہم **نداول** بدلتے ہیں ہم **فصل النون مع الراء**
ندسب جاویں گے ہم **ندرسنت** اور عہد بیان **ندور** منتیں **ندرم**
منت مانی تینے **ندرت** عہد کیا میں نے **ندور** ڈانا **ندیر** ڈالنے والا
ندور ڈا بیوالے **ندبر** چوڑے ہیں ہم **ندکر** یاد کرتے ہیں ہم **ندل**
خوار ہوتے ہیں ہم **ندلوق** چکھاتے ہیں ہم **فصل النون مع الراء**
ندرے دیکھتے ہیں ہم اور جانتے ہیں ہم **ندرے** دکھاتے ہیں ہم **ندیر**
چاہتے ہیں ہم **ندرور** دکھاتے ہیں ہم اور **ندیر** ہم **ندرور** اولے جہانگے

ن ر

ن ر

ہم نزل اود خواہش کرنیکی ہم اور حاجت نفس کی چاہتے ہیں ہم نزل
 بیچتے ہیں ہم نزل وقوع ادہاتی ہیں ہم نزل روق روزی دیتی ہیں ہم نزل
 وارث ہونگے ہم نزل بہت بردارش کرتے ہیں ہم

فصل النون مع الزار

نزل جہانی نزلۃ ایک بار اتنا نزل اترا وہ نزل اتنا اوسنی
 نزل اتنا اوسنی نزل اتنا گیا وہ نزل اتنا اوسنی گئی وہ نزل
 نزل برہاتی ہیں ہم نزل اود زیادہ ہوتے ہیں ہم اور برہاتی ہیں ہم
 نزل نکالا اوسنی نزل نکالا ہم نزل نکالا ہم نزل نکالا ہم نزل نکالا ہم
 نزل نکالا ہم نزل نکالا ہم نزل نکالا ہم نزل نکالا ہم نزل نکالا ہم

فصل النون مع سین
 نسی اود مارا اور دیر کرنے اور صراح میں ہے کہ نسی یعنی نسی
 ہے یعنی پیچھے ہٹا یا گیا عادت عرب کی ہتی کہ چمکے مہینے کو پیچھے ہٹا دیتے
 تھے اور کومنع فرمایا نسی ہولنا نسی ہولادہ نسی ہولے وہ
 دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون نسیوا ہولے وہ نسیت ہولادہ
 نسیتم ہولے تم نسیت ہولادہ نسینا ہولے ہم نسی
 ہلا یا گیا وہ اور جو چیز کہ نہ ہوں اور بیت نہ ہو اور حشر میں اوسکو
 نزل میں والدین اور اوسپر التفات نکیرین نسیین مدد جاتے ہیں
 نسی پاکسی بیان کرتے ہیں ہم نسی زندہ چوڑنگے ہم
 نسی بادیں گے ہم اور نسی اوسنگے ہم نسی ساقط کرتے ہیں ہم
 نسی جلاتے ہیں ہم نسی بچتے ہیں ہم اور مانگتے ہیں ہم
 نسی بچتے جاتے ہیں ہم اور جابین گے ہم نسی سلام
 لاتی ہیں ہم اور فرمان برداری کرتے ہیں ہم نسی ہٹا کرتے

ن

ن

میں ہم نشیجے بلانی میں ہم نشیجے بلانیگے ہم نشیجے جلاتے ہیں ہم
 اور سیر کرولتے ہیں ہم نشیجے ساریج شتابی کرتے ہیں ہم نشیجے
 سحر کرتے ہیں ہم نشیجے برابری کرنے میں ہم نشیجے باہر
 کہینچتے ہیں ہم نشیجے ہم نشیجے ہم نشیجے گہیرے لیکے اور
 گھسانے کرینگے ہم نشیجے ہم نشیجے ہم نشیجے ہم نشیجے ہم نشیجے ہم
 نشیجے لکھواتے ہیں ہم نشیجے کتاب اور لکھے ہوئی چیز
 نشیجے اڑانا اور اکیڑنا نشیجے اڑانی گئے وہ
 نشیجے بقت کرتے ہیں ہم نشیجے گہیرے ہم اور جلاویگے
 ہم نشیجے قربانیان نسل اولاد اور حبان اور
 بنیاد نشیجے سگات نشیجے نشیجے نشیجے نشیجے نشیجے
 داغ دینگے ہم نشیجے جلاتے ہیں ہم نشیجے نام بت کا
 ہے کہ قوم نوح اور سکو بعد وفات اور یس علیہ السلام کے
 رگس کی صورت بنا کے پوجتے تھے اور اسکو منظر قوت الہیہ کا
 سمجھتے تھے اور حقیقت میں حضرت اور یس علیہ السلام کے
 ایک بیٹے کا نام تھا ابلیس نے فریجے اور سکو بصورت بت کی بنایا تھا

ن میں

فصل النون مع اشہین

نشیجے میدا کرنا نشیجے چاہتے ہیں ہم نشیجے خوشبو اور
 براگندہ کرنا نشیجے زندہ ہونا یوم النور دن قیامت نشیجے بہیر
 گئے وہ نشیجے بدخونی کرنی اور ناموافق عورت مرد کے نشیجے کہولنے
 نشیجے شریک کرتے ہیں ہم نشیجے مضبوط کرتے ہیں ہم نشیجے خرید کرتے ہیں ہم
 نشیجے شہد گماہی دینگے ہم اور حاضر خود دینگے ہم

فصل النون مع لصاد

نَضَارِي نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا اول حق پر تھے بعد انکی انتقال کے کافر ہوئے اور حضرت کو ثالث ثلثہ کہنے لگے اور یہ کفر ہے اور ابو عمر و ابو حمزہ اور کسائی نے ہکوا مالہ سے پڑا ہے اور اصل میں یہ لفظ جمع نضاران کی ہے وہ نام ہے ایک سبتی کا شام میں دمان وہ رہتے تھے نَضْرَانِی نضران والے مراد وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع ہیں نَضْرُود کر کے نَضِیْر مدد کر نیوالا نَضْرُود کی اوسنی نَضْرُودا مدد کی اوہوں نے نَضْرُودا مدد کی ہمنے نَضِیْر سہارتے ہیں ہم نَضْرِوْت باز رکھتے ہیں ہم نَضْرِوْت با بار پھرتے ہیں ہم نَضْف آدھا نَضِیْب حصہ نَضِیْب پہنچتے ہیں ہم نَضْب رنج اور تکلیف نَضْب بت اور جو چیز خدا کے سوا ہی پوجی جاوے اور کھڑی کی جاوے نَضِبْت کھڑی کی گئے وہ نَضِلے پہنچاتے ہیں ہم اور آگ پر سینکتے ہیں ہم نَضْدِقْ خیرات کرتے ہیں ہم صل میں نَضْدِقْ تھا نَضْح سمجھانا اور نصیحت دینی نَضْحُوْا نصیحت دی اوہوں نے نَضْوَتْ نصیحت کی میں فی نَضْوُوح خالص اور صاف

فصل النون مع لصاد

نَضْع سکتے ہیں ہم نَضِیْعْ اکارت فرماوین گے ہم نَضِجْت کے وہ نَضْرَة نازگی نَضِیْدَة یہ تہ نَضْحَاتَانِ دو چشمے اور بلتے ہوئے نَضْرِبْ مارتی ہیں ہم اور بیان کرتی ہیں ہم نَضْطَرَّ بچا رہ کر نیگے ہم اور کہیںچ لاو نیگے ہم

فصل النون مع الطار

نَطْرَس مٹاتے ہیں ہم نَطِیْعْ ہر کرتے ہیں ہم نَطْمِعْ بہر وسا کرتی ہیں ہم نَطْوِنے لپٹین گے ہم نَطْعِمْ کہلاتے ہیں ہم نَطِیْحْ سے سینگ مارے

گئے یعنی جو حیوان کہ سینک کے مارنی سے مر جاوے کہا نا اوسکا شرع میں
حرام ہے نطفہ بوند منے تطبیح فرمان برداری کرتے ہیں ہم

ن نا

فصل النون مع الطار

نظر دیکھنا نظیرۃ ایبار دیکھنا نظر دیکھا اوسنے نظیرۃ مہلت دینی
اور دیر کرنے نظن گمان کرتے ہیں ہم نطل ساری دن رہینگے ہم

ن ع

فصل النون مع العین

نعمت عبادت کرتے ہیں ہم نعجتہ ونبہ نجاج ونبہ نعمار نعمتین
نعمتہ آرام اور عنایت نعم نعمتین نعم اچھا افعال مدح سے ہے
اور عین کو کسرہ ہے دیتے ہیں جیسے (یعنی ہے) اسوقت میں عمل اسکا
نعم ہو جاتا ہے نعم چار پائے نعم مان حروف ایجاب سے ہے
اکت بر حکم کے جواب میں نہیں آتا ہے وہاں بولتے ہیں نعم کہنا
کفر ہے اسواسطے کہ نعم واسطے اثبات مضمون ماسبق کے آتا ہے
نعم ہو یا اثبات نعم نعمت اوسنی نعیم نیکی اور نعمت نعمت اعادہ
کرنیکے ہم نعمل کام کرنیکے ہم نعتف معاف کرنیکے ہم واو گر گیا
نعمودہ نعم پر نیکے ہم نعتب عذاب کرنیکے ہم نعلم جانتی
ہیں ہم اور جانیکے ہم نعلم سکھاتے ہیں ہم نعم عدم کرتے ہیں
ہم واو گر گیا نعم گنتے ہیں ہم نعلمین ظاہر کرتے ہیں ہم نعتبر
عمر دیتے ہیں ہم نعتقل سمجھتے ہیں ہم نعتجز عاجز کرتے ہیں ہم نعتاس اونگہ
اور نیند نعلے دو جوتیان : فصل النون مع العین :
نعتف رنجشتے ہیں ہم اور ڈھانپتے ہیں ہم نعترق ڈبوتے ہیں ہم
نعتربے در خلا نتے ہیں ہم نعاور چھوڑتے ہیں ہم

ن ع

فصل النون مع الفاء

نَفْرَقَ جد کرتے ہیں ہم **نَفْصَلُ** بیان کرتے ہیں ہم **نَفْعَلُ** کرتے
 ہیں ہم **نَفْتِنَ** جانچتے ہیں ہم **نَفَعُ** فائدہ دینا **نَفَعُ** فائدہ دیا
 اوسنے **نَفَعَتْ** فائدہ دیا اوسنے **نَفَحَتْ** ایک بار پھونکنا **نَفَحَ** پھونکا
 اوسنی **نَفَحَتْ** پھونکا میں نے **نَفَحْنَا** پھونکا ہم نے **نَفَحَ** پھونکا
 گیا وہ **نَفَحَتْ** ایک بہا پ اور پھونکنا خوشبو کا **نَفُوْرُ** بہاگنا **نَفْرَ**
 بہاگنا وہ **نَفْرَ** جماعت تین سے دس تک **نَفِيْرُ** بہیر قوم کے آگے
 جاوے **نَفْسُ** جان اور خون اور ذات **نَفْوَسُ** جانیں **نَفْسَتْ**
 رات کو چرے وہ **نَفَادُ** کم ہونا اور **نَفِيْرًا** **نَفِدَ** کم ہوا وہ **نَفِدَتْ** کم ہوئے
 وہ **نَفْرُوحُ** فراغت پاتے ہیں ہم **نَفِيْدُ** فائدہ کرتی ہیں ہم **نَفِيْدُ**
 ڈھونڈتے ہیں ہم **نَفَائَاتُ** پھونکنے والیاں **نَفَقَةُ** سمجھتے ہیں
 ہم **نَفَقَةُ** روزمی اور ماہیاج لیب **نَفَقَاتُ** روزمی اور حنیج سب
نَفَاقُ دو موٹے اور دو ولے **نَفُوْقُ** راہ باریک اور سوراخ
نَفْضِلُ زیادہ کرتے ہیں ہم : **فصل النون مع القاف**
نَقَضُ کم کرنا اور گھٹنا **نَقَضُ** : **نَقَضُضُ** بیان کرتے ہیں ہم
نَقَضُنُ توڑنا اور کھولنا بل رسی کا **نَقَضَتْ** توڑا اوسنے
نَقِيصُنُ مقرر کرتی ہیں ہم **نَقَعْدُ** بیٹھے ہیں ہم **نَقَبُ** راہ اور سوراخ
نَقَبُوا کر دیا اور سوراخ کیا او نہوں نے **نَقِيْبُ** سردار اور ماہر
نَقِيْبُ بیٹھے ہیں ہم **نَقِيْسُ** پاکی سے بیان کرتے ہیں ہم
نَقِيْدُ رنگ بگڑنے ہیں ہم اور تو انا ہوتے ہیں ہم **نَقِيْلُ**
 مار دالتی ہیں ہم **نَقَاتِلُ** لڑائی کرتے ہیں ہم **نَقِيْلُ** خوب مار نیگی ہم

نم

نن

نو

فصل النون مع الهمزة

تھلکہ چونٹی مثل چوٹیاں تھار ق بھولے غالیجے تھیم جھنور سٹلے
 لکتے ہیں ہم اور جہلت دیتے ہیں ہم کٹخ کٹخ کرتے ہیں ہم کٹخ فائدہ
 دیتے ہیں ہم کٹخ احسان رکھتے ہیں ہم کٹخ قدرت دیتے ہیں ہم
 اور جاوین گے ہم کٹخ کہینچے ہیں ہم اور کہینچے گے ہم کٹخ موت مرتے ہیں
 اور مرینگے ہم کٹخ مارتے ہیں ہم کٹخ کھانا لادینگے اور رسد لادینگے

فصل النون مع النون

تھلکہ مدد کرتے ہیں ہم
 کٹخ مثالے اور موقوف کرتے ہیں ہم اور کٹخ عامر نے
 ساتھ ضمہ نون کے پڑنا ہے کٹخ بھلاتے ہیں ہم کٹخ بھولتی ہیں
 ہم کٹخ او بھارتی ہیں ہم بالزار المعجزة اور نافع اور ابن کثیر اور ابو عمر
 اور یعقوب نے زار جہلہ سے پڑنا ہے کٹخ دیکھتے ہیں ہم کٹخ مدد
 کرتے ہیں ہم کٹخ کم کرتے ہیں ہم کٹخ اتار تے ہیں ہم کٹخ
 کٹخ خبردار کرتے ہیں ہم کٹخ بجاوین گے ہم کٹخ نجات
 دیتے ہیں ہم کٹخ منع کرتے ہیں ہم کٹخ بکھیرینگے ہم کٹخ

اونڈا کرتے ہیں ہم کٹخ پیدا کرتے ہیں ہم فصل النون مع الواو
 نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نام ہے ایک پیغمبر اولو العزم کا
 کہ قصہ اونکا مکر وھو ان میں مذکور ہے نور روشنی کہ بواسطے اسکے تمام
 عالم دیکھا جاوے اور نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ نور السموات
 والارض یعنی نور السموات یعنی روشن کر نیوالا آسمانوں کا اور زمینوں کا
 نور کٹھیاں کھجور کی قوم نیند اور سونا نور صبحی پشانیان نور صبحی
 ہیجے ہیں ہم اور دل میں ڈالتے ہیں ہم نور نور اختیار کرتے ہیں ہم نور نور

پہرے ہیں ہم تو دمی بجا گیا وہ تو دو اچارے گئے وہ ٹوٹ
 پورا دینگے ہم یا کر گئے تو خیر دیر کرتے ہیں ہم تو ریش وارث کرتی ہیں
 ہم اور میراث دیتے ہیں ہم ٹوٹ دیتے ہیں ہم یا کر گئے تو زمین
 ایمان لاتے ہیں ہم ٹوٹن مچھلی ذوالنون لقب حضرت یونس علیہ السلام کا
 ہے کہ مچھلی اونکو نگل گئے تھی چالیس روز اوکے پیٹ میں رہے بعد
 اوکے سینہ اسد سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اگل دیا ۛ ۛ

فصل النون مع الہار

مٹھے عقل نہی منع کیا ہو سنی کھنوا منع کیا اوہون نے کھنوا
 منع کئے گئے وہ نہایت منع کیا گیا میں تختہ منی راہ بتلاتی ہیں ہم
 تختہ سے راہ پاتی ہیں ہم ٹھٹکٹ نا بود کرتے ہیں ہم تختہ
 مشہور ہے پانی بہنے کی جگہ ٹھار دن فصل النون مع الیاریہ
 ٹیٹیر آسان کرتے ہیں ہم اور کرینگے ہم ٹیٹیل پہنچنا ۛ

باب الواو

و حرف عطف ہے ایک کلمہ کو دوسرے پر پہرنے کے واسطے آتا
 ہے بے عمل ہے اور تم کے واسطے ہی آتا ہے اسورتین عمل جبر کا کرتا ہے

فصل الواو مع الالف

واریعہ یاد رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والے واریعہ بودی اور ست
 ہونیوالے کبس ہی واریعہ ڈرنیوالے اور کانپنے والے واقع کرنے والا
 واقعہ پرنیوالی اور حادثہ اور قیامت اور مصیبت اور لڑائی وازیر
 گناہ اور ہانیوالی وارث میراث لینے والا وارثون وارث ہونیوالے
 واصل ہمیشہ اور سخت وارد پانی پر آنیوالا واردون درانیوالے

وَالِدِ بَابِ وَالِدَيْنِ ، بَابِ وَالِدَتَانِ وَالِذَاتِ مَائِنِ
 وَاحِدٌ اِيك مُرِدٌ وَاحِدَةٌ اِيك عَوْرَتٌ وَاسِعٌ فَرَاخٌ اَوْرَشٌ
 وَالَا وَاسِعَةٌ كَشَادَهُ وَاعْظِيمٌ بِنْدُو سِيْنِ وَالْاَعْظَامُ
 وَعَدَهُ كَيَا مِيْنِ وَالِاِ حَاكِمٌ حَايِيْتِي نَزْدِيكٌ هُوْتِي وَالَا يَا اَخْرَسِي
 كَرَكْتِي وَاقِي نِغَاةً رِي كِنْتِي وَالَا يَا اَخْرَسِي كَرَكْتِي وَادِي وَهِي اَوْرَشِي
 شِيكْرَا اَوْرَشِي الْمَقْدِسِ نَامُ اَسْ جَلْبِي كَا هِي كِي اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ
 اَوْرَشِي عَلِيْهِ السَّلَامُ سِي دِيْمَانِ كَلَامُ اَوْرَشِي بَابُ هُوْتِي اَوْرَشِي كِي يَا
 اَخْرَسِي كَرَا تِي هِي وَادِي مِيْنِي بَرِي بُوْنَدِ كَا وَاشْتِ مَضْبُوْتِي

فصل الواو مع الباء

وَبَالَ عَذَابٌ يُؤْتِي الْمَلَائِكَةَ وَنُوحًا مِّنْهُنَّ اِيكٌ كُنْتِي سِي اَدْمِي مَرَجَاتِي هِي وَشَرَطَاقٌ
 اَوْرَشِي بَعْضُوْنَ لِي فَتْحٌ وَادِي سِي بَرِي هِي بِفَضْلِ الْوَالُوْ مَعَ الْتَا
 وَشَاقٌ سَا تِي فَتْحٌ اَوْرَشِي وَادِي كِي قِيْدَا اَوْرَشِي بَانْدِي اَوْرَشِي مَضْبُوْتِي

فصل الواو مع الجيم

وَجِهٌ مِّنْهُ اَوْرَشِي اَوْرَشِي وَجْهٌ اَلنَّهَارِ اَوْلُ دِنِ وَوَجْهَةٌ مِّنْهُ سَبٌ وَجِيْبِي
 رُوْدَا اَوْرَشِي صَا حِبٌ عَزْتٌ اَوْرَشِي بَرِي وَوَجْهَةٌ قَبْلُهُ اَوْرَشِي وَوَجْهَةٌ مِّنْهُ
 كِيَا مِيْنِي اَوْرَشِي مَتُوْجِبُ هُوَا مِيْنِ وَوَجِيْبٌ پَرِي اَوْرَشِي وَوَجِيْلَةٌ دُرِّي
 وَوَجِيْلُوْنَ دُرِّيُوَالِي وَوَجِيْلَةٌ دُرِّيُوَالِي وَوَجِيْدٌ مَقْدُوْرٌ اَوْرَشِي تُوْنُكْرِي
 وَوَجِيْدٌ يَا اَوْرَشِي وَوَجِيْدٌ يَا اَوْرَشِي وَوَجِيْدٌ يَا اَوْرَشِي وَوَجِيْدٌ يَا اَوْرَشِي
 وَوَجِيْدٌ يَا اَوْرَشِي وَوَجِيْدٌ يَا اَوْرَشِي وَوَجِيْدٌ يَا اَوْرَشِي وَوَجِيْدٌ يَا اَوْرَشِي

فصل الواو مع الحاء

تو خدا ایک فرزند اِکَا وَخَوْش جانی و جگلی وحی اشارہ اور پیغام الہی اور ملیزہ
 کچھ ڈالنا بہ فضل الواو مع الخار بہ خالی پھصل الواو مع الدال
 و و نام بت کا ہے کہ قوم نوح اور سکو مظهر دوستی کا جاننے بصورت مرد کے
 تراشا تھا اور اسکو پوجتے تھے اور ہنود اسکو بشن کہتے ہیں اول نام ایک
 بیٹے اور یس علیہ السلام کا تھا شیطان کے فریب سے اسکو اونکی صورت
 سے بنایا تھا بعد طوفان نوح کے وہ بت بنو قضاہ کے ماتہ لگا اور ہنوں
 و دوتہ اجندل میں رکھا تھا بعد اونکے بنو کلب کو پہنچا زمانہ نبوت تک
 اسطرح رہا آخر کولجد اسلام کے سب گم ہو گئے و فوق بسنا اور
 مینہ و و محبت اور دوستی رکھنی و و چاہا اور دوست رکھا اسنے
 و و دوست رکھا و نون نے و و چاہا اور دوست رکھا اور ہنوں
 نے و و نہ چاہا اسنے و و دوست رکھنے والا اور دوست
 رکھا گیا نام حمد تقالے کا ہے و و مسنون سے درست ہے و و غ
 خصت کیا اور جوڑ دیا اسنے و و فضل الواو مع الذال بہ خالی

فصل الواو مع الراء

و و آگے اور پیچھے اضداد سے ہے اعراب میں حکم اسکا مانند بعد کی ہے
 و و ق چاندی سکہ بنائی ہوئی و و ق ہے اور کاخذ تراشا ہوا و و ق
 ایک پتا و و زید شاہرگ و و ز و پیا سے پانی کو آنیوالے و و ز و کلابی
 اور کلاب و و ز پانی کو پہنچا رہ و و ز و وار و ہونے وہ و و ز و رت و و ز
 ہوا وہ اور مال مردے کا پایا اسنے و و ز و ارش ہوئی وہ فضل الواو مع الزا
 و و ز و رچا و اور ہیا و و ز و ر بوجہ اور گناہ و و ز و ر بوجہ اور گناہ و و ز
 اور شریک بوجہ اوٹھانے میں ہوئی والا اور تدریک ہوئی والا و و ز و ز و ز و ز و ز

دس

فصل الواو مع الہین

وَسُوَاسٍ سَنَكَارٍ اور اَدَلِيَّةٌ نَدٍ اور نَامٌ دِيُو كَا هِي وَسُوَسٌ سَنَكَارٍ
 اور دَلِيْنٌ ذَالَاوُ مَنَعٌ فَرَاعَتٌ اور فَرَاعِيٌّ وَسِيْحٌ كَنَادَةٌ مَوَادَةٌ وَسِيْعَتٌ فَوَاحٍ
 مَوْنِيٌّ وَوَسِيْعَتٌ سَمَالِيَا تَوْنِيٌّ وَسَطٌ بِيْحٌ اور مَسْتَدَلٌ وَسَطُنٌ مَهْمَلٌ كَيْنٌ وَوَه
 وَسَطِيٌّ بِيْحٌ اور صَلُوَةٌ الْوَسِيْطَةُ نَمَازٌ عَصْرٌ كَرِيْحٌ مِيْنٌ اِيْكٌ سَمِيٌّ اور اِيْكٌ سَمِيٌّ
 كِيٌّ هِيٌّ اور لِيْفِيٌّ مَرِنَمَازٌ حَمْدٌ كُوَصَلُوَةٌ الْوَسِيْطَةُ كِيْتِيٌّ هِيْنٌ وَسَوِيٌّ سَمِيٌّ اور مَجِيٌّ كِيٌّ
 اَوَسِيٌّ وَسِيْلِيَّةٌ وَاسِطَةٌ اور دَسْتَاوِيْرٌ اور جُوْحِيْرٌ كُوَ وَاسِطَةٌ نَزْدِيْكِيٌّ كِيٌّ حِيْرٌ كِيٌّ
 مَوٌ جِيٌّ قَسْرَانٌ اور رِيْسُوْلٌ وَاسِطَةٌ قَرَبٌ حَقٌّ كِيٌّ هِيْنٌ اِيْكٌ

دس و دس

فصل الواو مع الشين : خالی : فصل الواو مع الصاد

وَصِيْلِيَّةٌ مَلَانِيْوَالِيٌّ جَابِلِيَّتٌ مِيْنٌ عَادَتٌ هِيٌّ كِيٌّ جُوْمِيْرِيٌّ كُوَسَاتٌ يَارِيْحِيٌّ وَوَه
 اور اَشُوِيْنٌ يَارِيْرٌ اور مَادَةٌ مَلِكٌ حَنِيَّةٌ تُوَاوِيْكُوٌ وَوَصِيْلِيَّةٌ كِيْتِيٌّ تِيْمَاوَرِيَّةٌ اور كِيْتِيٌّ
 تِيْمٌ اور لِيْفِيٌّ نِيٌّ كِيٌّ هِيٌّ كُوَ رِيْسٌ هِيٌّ كِيٌّ جُوْمِيْرِيٌّ نِيٌّ مَوِيْتٌ كِيٌّ نَامٌ فَرِيْحٌ
 كَرِيْتِيٌّ تِيْمٌ اور مَادَةٌ هِيٌّ تُوَاوِيْبٌ لِيْكِيْتِيٌّ تِيْمٌ پَرَاكِرِيْرٌ اور مَادَةٌ مَلِكٌ هِيُوْنٌ تُوَنْزِيْكُوٌ
 بِيٌّ رَكِيْبِيَّةٌ تِيْمٌ مَادَةٌ كِيٌّ سَاهِيْمٌ اور اَوِيْكُوٌ وَوَصِيْلِيَّةٌ كِيْتِيٌّ تِيْمٌ لِيْجُوْمُوْرٌ اسْلَامٌ
 كِيٌّ هِيْرٌ سَمِيْنٌ مَثٌ كَيْنٌ وَوَصَلْتٌ مَلَانِيْوَالِيٌّ وَوَصِيْلِيَّةٌ نَصِيْبَتٌ اور لُوَاوِيْنَا
 وَوَصِيْلِيَّةٌ نَصِيْبَتٌ كِيٌّ اور تَاكِيْدٌ فَرَمَانِيٌّ اِيْسِيٌّ اور دَلُوَاوِيْرٌ اور نَامٌ فَعٌ اور
 اِيْنٌ جَامِرٌ لِيٌّ اَوِيْحِيٌّ پُرْمَانِيٌّ وَوَصِيْلِيَّةٌ تَاكِيْدٌ كِيٌّ مِيْنِيٌّ وَوَصِيْلِيَّةٌ جُوْمِيْرِيٌّ وَوَصِيْلِيَّةٌ نَصِيْبَتٌ

دس

فصل الواو مع الصاد

وَوَضَعٌ رَكِيْبَاوِيْسِيٌّ وَوَضَعْتٌ جِيْءٌ وَوَضَعْتٌ جِيْءٌ مِيْنٌ وَوَضَعْتٌ رَكِيْبَاوِيْسِيٌّ
 وَوَضَعٌ رَكِيْبَاوِيْسِيٌّ اور بِنَاوِيْكِيٌّ : فصل الواو مع الطاء :
 وَوَطْرٌ حَاجَتٌ وَوَطْرٌ كَهْنٌ لَنَا اور اَبُو عَمْرٍ وَاوِيْرٌ اِيْنٌ جَامِرٌ لِيٌّ كَسْرَةٌ وَوَاو

دس

دو وہ

فَضْلُ الْوَاوِ مَعَ الْوَاوِ وَ وَزِيءٌ جِوَايَا كِيَا بِفَضْلِ الْوَاوِ مَعَ الْهَاءِ
 وَ تَابِجٌ حِكْمَةٌ دَالَا وَ هَبَّ بَخَا أَوْ سَنَى وَ هَبَّتْ بَخَا أَوْ سَنَى وَ هَبَّتْ بَخَا
 وَ تَابِجٌ غُوبٌ بَخَشْنَى دَالَا وَ هَبَّنَ سَسْتَى وَ هَبَّنَ سَسْتَى هُوَاوَهُ وَ هَبَّتُوا
 سَسْتَى هُوَلَى وَ هَبَّ فَضْلُ الْوَاوِ مَعَ الْيَاءِ بِهٍ وَ نِيلٌ عَذَابٌ أَوْ سَمِيحٌ
 أَوْ رَنَامٌ مِيدَانٌ كَا هَبَّ دَوْرُخٌ مِينَ وَ نَيْلَتِيْ أَسْفُوسٌ وَ نَيْكَانٌ تَعَجُّبٌ أَوْ دَوْرٌ
 هَبَّ أَدْرَكَ أَيْ لَمْ يَكُنْ يَكْتُمُ كَيْفَ يَكْتُمُ كَيْفَ يَكْتُمُ كَيْفَ يَكْتُمُ كَيْفَ يَكْتُمُ كَيْفَ يَكْتُمُ
 تَرْكِيْبٌ بَعْضُونَ لَمْ يَكُنْ هَبَّ كَرِيْمٌ مَرْكَبٌ وَ هَبَّ أَدْرَكَ حَرْفٌ خَطَابٌ أَوْ أَنَّ حَرْفٌ
 مُشَبَّهٌ لِبَعْضٍ هَبَّ هَبَّ أَدْرَكَ أَيْ كَرِيْمٌ وَ نَيْكَانٌ أَدْرَكَ هَبَّ مَرْكَبٌ هَبَّ
 أَدْرَكَ خَلِيْلٌ وَ حَى الْاَلِفُ پُرْهَتَا هَبَّ أَدْرَكَ الْاَلِفُ أَدْرَكَ بَعْضُونَ لَمْ يَكُنْ
 اَصْلٌ مِينَ وَ نَيْكَانٌ تَهْلَامٌ كَوْنُ خَفِيْفٌ كَلِمَةٌ لَمْ يَكُنْ حَذْفٌ كَيْفَ أَدْرَكَ الْاَلِفُ

وی

باب اٹھارہ

ب

۵ وہ مرد ضمیر واحد کر غائب جیسے لَمْ وَ اَلِيْمَةٌ وَ عَلِيْمَةٌ اور کبھی حالت وقف
 مین واسطے اظہار حرکت کے زیادہ کرتے ہیں اور سکوبا، سکتے کہتے ہیں جیسے
 اور سلطانہ اور کبھی تار تانیث ہی حالت وقف مین ہے ہوجاتی ہے
 جیسے رحمہ اور نغمہ یہ فصل الہا مَعَ الْاَلِفِ ہا وہ عورت
 ضمیر واحد مؤنث غائب کی ہے اور واسطے تنبیہ کے بھی آتا ہے معنی
 اوسکی خبر دار ہو گا تو اَلَاؤْتَمُّ اَصْلٌ مِينَ خَلِيْلٌ كَلِمَةٌ لَمْ يَكُنْ اَتُوا تَهْلَامٌ
 الْاَلِفُ كَوْنٌ هَبَّ بَدَلٌ كَيْفَ اَدْرَكَ بَعْضُونَ لَمْ يَكُنْ اَلِيْمَةٌ عَلِيْمَةٌ هَبَّ كَاؤْمٌ
 پکڑو اور اَوْتَمُّ اِسْمٌ فَعْلٌ هَبَّ كَاؤْمٌ يَكْتُمُ كَيْفَ يَكْتُمُ كَيْفَ يَكْتُمُ كَيْفَ يَكْتُمُ
 واسطے تنبیہ مؤنث کے ہبَّتْ اَسْمٌ كَلِمَةٌ لَمْ يَكُنْ اَلَاؤْتَمُّ اَصْلٌ مِينَ
 ہونے والا اصل مین کما پُرْ تَهْلَامٌ مَكَانِيٌّ كَرِيْمٌ كَلِمَةٌ لَمْ يَكُنْ اَدْرَكَ اَدْرَكَ

۱۵

ہا جبر ہجرت کی اوسنے ماجر و اجرت کی ادہون نے
 ماجرین وطن چھوڑا ادہون نے ہا مدرة دے ہوئے اور
 زمین بے گہاس اور سوکھی گہاس ما ویتہ گڑھا اور دوزخ اور نیچے کا
 طبقہ دوزخ کا کہ جگہ منافقوں کی ہے نمولا یہ وہ لوگ اسم اشارہ
 جمع مذکر کے واسطے ہذا یہ مرد ہذا ان یہ دو مرد ہذہ یہ ایک عورت
 مالک ہلاک ہونے والا مالکین ہلاک ہونے والے ہادی
 راہ بتانے والا اور کہی تے گر جاتی ہے ہا دوا یہودی ہوئے
 اور توبہ کے ادہون نے ہاروت نام ایک فرشتی کا دوزخ شون
 سے کہ شہر بابل میں اترے تے ہا مان نام وزیر فرعون
 ملعون کا ہے ہارون نام وزیر اور ہائے حضرت موسیٰ کا
 ہے علی نبینا علیہا الصلوٰۃ والسلام ہا کذا ای ہے

فصل الہار مع البار

ہب بخش تو اور دے تو ہب بار غبار اور گرد

فصل الہار مع التار والشار ہ خالی

فصل اطہار مع بحیم ہ ہنجر چوڑا اور بات پریشان کہنی

فصل الہار مع الحار وانخار ہ خالی ہ

فصل الہار مع الدال

ہدی راہ اور راہ بتانے ہدی راہ بتانے اوسنے
 ہدیت راہ بتانے توئے ہدینا راہ بتانی ہنہ ہدی راہ جانا
 ہا ہذا راہ بتانی گئے وہ ہدے جانور قربانی کا کہلے کو پیچے ہن

ہدیہ کیلئے کہ دوست دوست کو بھیجے ہیں ہڈ توڑنا اور ویراں کرنا ہمیشہ
ڈھائی گئی وہ اور گرائی گئی وہ ہڈ نام سلیمان چڑیے کا ہے ہڈنا

توبہ کی معنی ہے **فصل الباء مع الذا** ہڈ خالی ہے

فصل الباء مع الراء ہڈ سرب بہاگنا ہے

فصل الباء مع الزاء

ہڈل سخن بیوہ اور ہڈی ہڈموا بہاگے وہ ہڈرو ہڈہا ہڈرمی ہڈادی ہے

فصل الباء مع الیاء ہڈ خالی ہے **فصل الباء مع الشیاء** ہڈ

ہڈشیم - چورا اور گہاٹس سوکھی ہے **فصل الباء مع الصاداء** ہڈ خالی ہے

فصل الباء مع الصاد

ہڈضم حق کم کرنا اور توڑنا ہڈضمیم چیز نازک اور نرم اور کھلی ہے **فصل الباء**

مع الطاء والظاء والعین والغین والفاء والقاف والکاف

فصل الباء مع اللام

ہڈل کیا حرف استفہام ہے ہڈم آؤ تم ہڈم فعل ہے ہڈلوع جی کا گچا

اور جریس ہڈگ کہیا اور خراب ہڈواوہ ہے **فصل الباء مع الیم** ہڈ

ہڈما وہ دو مرد اور دو عورتیں ہڈم وہ سب مرد جمع مذکر غائب کی صفت ہے

ہڈمترہ آنکھ سے اشارہ کرنے والا اور عیب کرنے والا ہڈمزات و سوتے

ہڈماز طعنہ کرنے والا اور عیب لگانا ہڈمفس کہیں کہیں یعنی

آواز نرم اور آہستہ ہڈم ارادہ کیا ہڈموا ارادہ کیا ہڈموت ہڈم ارادہ

فصل الباء مع النون

ہڈمق وہ سب عورتیں ضمیر مفصل ہے جمع مؤنث غائب کے واسطے

ہڈمالک وہاں ہڈم اشارہ موضوع واسطے مکان بعید کے واسطے

ہڈ
ہر
ہز
ہس
ہص
ہن
ہط
ہظ
ہف
ہق
ہک
ہل
ہم
ہن

نائد ہے اور کاف خطاب کا مفتوح اور کسور ہوتا ہے ہنئی اور جی ہوا

فصل الہار مع الواو

ہو وہ ایک بڑا ضمیر مفصل ہے واحد مذکر فاعل کے واسطے جب دوسرے
کلمے سے متصل ہوتی ہے واو گر جاتا ہے اور حرف مارا جاتا ہے لیکن
اگر باقبل کسور یا ساکن ہووے ضمیر کسور ہوتی ہے نہیں تو مضموم طبع
ہے اور علیہ اور لہ ہووے یہودی اور توبہ کرنے والے اور نام ہے
ایک ضمیر کا قصہ انکا قرآن میں مذکور ہے علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
ہوون ذلت ہوون آہستہ ہوونے بڑا واو اور آرزو نہیں ہووا اور خالی

فصل الہار مع الیاء

یہ عورت ضمیر واحد مؤنث فاعل کی ہے جب دوسرے کلمے
متصل ہوتی ہے یا بدل الف سے ہوتی ہے جیسے رہنا اور علیہا اور
کہنے والے تکثرت متصل ہوتے ہے جیسے ہینہ بہ ہینت آو اور آ
اسم فعل ہے ہینت دوز ہوا اسم فعل ہے بمعنی ماضی کے
ہتے نیار کر ہینتہ صورت ہینت آسان کر تو ہمیں آدمی اور اونٹ بنا

باب الیاء

ی مجکو اور میرا یہ حرف متکلم کا ہے آخر افعال اور اسماء اور حروف
میں داخل ہوتا ہے جیسے توجب اور عکلائے اور کہی یا حذف
کرتے ہیں اور کسر ہوا لالت کے واسطے باقی رکھتے ہیں جیسے یا قوم یا
اور یا کو کہی فتح ہی دیتے ہیں اور قبل یا کے آخر افعال کے نون وقایہ
ہی زیادہ کرتے ہیں جیسے ظہر یعنی وصریح بحث اوسکے سوئی کہوں
میں مفصل مذکور ہے من شاء فلینظر شہد

فصل الیاء مع الالف

۱۱

یا اے یہ حرف نداء ہے قریب اور تعجب کے واسطے آتا ہے خاص ہسم پر اور آگے
یا اسجدوا میں سناوی محذوف ہے پس ای انسان کامل تغیر ماروی
میں ہے مراد اس سے جناب رسالت آج میں گما قال الشاعیر ۛ لله دینکم
یا ایل یاسینا اور بعضوں نے کہا نام قرآن کا ہے اور بعضوں نے کہا
نام اللہ تعالیٰ کا ہے یوو و بوجہل کرتا ہے اور دشوار ہوتا ہے
یوو قومی پہنچاتا ہے یئوئس نا امید ہونے والا یئس نا امید ہوا
وہ یئسوا اس توڑی اونہوں نے یئسن اس توڑے
انہوں نے یا فکون تہمت کرتے ہیں وہ یوو ابھارتا ہے
یوو پیدہ د کرتا ہے وہ یا مرون مشورہ کرتے ہیں وہ یا تل تم
کہاتا ہے وہ یا آخر سے گر پڑے یاتے تھا یا بس سو کہا یا یسا
سو کے (ج) یاتے آتا ہے وہ یا ثیان آتے ہیں دو مرد
یا لوان آتے ہیں سب مرد یا تین آتی ہیں سب عورتیں
یا مر حکم کرتا ہے وہ یا مروون حکم کرتے ہیں وہ یا کل کہا تا ہر
وہ نا کلان کہاتے ہیں دو نر آدمی یا کلوان کہاتے ہیں وہ سب
یا کلن کہاتیں ہیں وہ سب عورتیں یا خذ لیتا ہے وہ اور بکرتا ہے
وہ یا خذون لیتے ہیں وہ یا لون کم کرتے ہیں وہ یا لمون
دردناک ہوتے ہیں وہ یا من امن میں رکھتا ہے وہ یا منوا بخوف
ہوتے ہیں وہ یا فون حکم کرتا ہے اور خبردار کرتا ہے وہ یا ان
وقت پہنچتا ہے وہ یا آخر سے حالت جزمی میں گر گئے یا قوث لانع
جواہر کا سے سرخ اور نرد اور کبود ہوتا ہے مگر سرخ سب سے بہتر

ہے اور سفید بھی ہوتا ہے مگر نایاب یا جوج نام ایک قوم کا ہے ذکر اس کا
 ماجوج میں گذر چکا ہے **فصل الیاء مع الباء** یہ **یُبصر** دیکھتا ہے
 وہ اور دیکھتا ہے وہ **یُبصر** و **وَن** دیکھتے ہیں وہ اور دیکھاتی ہیں وہ
یُبصر و **وَن** دیکھتے ہیں وہ **یُبصر** بیان کرتا ہے وہ **یُبصر**
 رات گزارتے ہیں وہ **یُبصر** رات کو کام کرتے ہیں اور مشورہ
 کرتے ہیں اور شب کرتے ہیں وہ **یُبصر** بدل کرتا ہے وہ **یُبصر**
 بدل کیا جاتا ہے وہ **یُبصر** عوض دیتا ہے وہ **یُبصر** بدل کرتی
 ہیں وہ **یُبصر** خوشبو دیا جاتا ہے وہ نافع اور ابن عامر نے
 شدید سے پڑتا ہے اور حمزہ اور کسائی نے تخفیف سے **یُبصر** ناہید
 ہووے وہ **یُبصر** خراب ہوگا وہ **یُبصر** حد سے گذرتا ہے وہ **یُبصر**
 حد سے گذرتے ہیں وہ **یُبصر** بغاوت کرتے ہیں اور سچا
 ہیں وہ **یُبصر** چاہتا ہے اور ڈھونڈتا ہے وہ **یُبصر** چاہتے
 ہیں وہ **یُبصر** آزماتا ہے وہ **یُبصر** آزماتا ہے وہ **یُبصر**
 آزماتے ہیں وہ **یُبصر** آزماتا ہے وہ **یُبصر** نخل کرتا ہے
 وہ **یُبصر** روکتے ہیں وہ **یُبصر** شروع کرتا ہے وہ **یُبصر**
 ظاہر کرتا ہے اور پیدا کرتا ہے وہ **یُبصر** ظاہر کرتے ہیں وہ
یُبصر ظاہر کرتے ہیں وہ **یُبصر** سخت پکڑتا ہے وہ
یُبصر پکڑتے ہیں وہ **یُبصر** ناچیز کرتا ہے وہ **یُبصر**
 کم کرتا ہے وہ **یُبصر** کم کئے جاتے ہیں وہ **یُبصر**
یُبصر پہنچتا ہے وہ **یُبصر** پہنچتا ہے وہ **یُبصر** پہنچتا ہے وہ
 پہنچاتے ہیں وہ **یُبصر** پہنچتا ہے اور اوٹھاتا ہے وہ **یُبصر** اوٹھایا جاتا ہے

مُتَعَوِّنٌ اور نہانی جاتی ہیں وہ **سُجَّتْ** کہہ دیتا ہے وہ **مُتَكُونٌ** کہتے
 ہیں وہ **مُطَيَّرٌ** دیر کرتا ہے وہ **مُتَكُونٌ** کاٹتے ہیں اور چیرتے
 ہیں وہ کہتا ہے **قَلْبِي لَنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ يَسْبُطُ** کا وہ کرتا ہے
 اور چھاتا ہے وہ **يَسْبُطُوا** کہتے ہیں وہ **مُبَايَعُونَ** اقرار کرتے ہیں
 اور بیعت کرتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں وہ **مُبَايَعُونَ** استرا
 کرتے ہیں وہ **مُتَبَسِّئُونَ** خشک میس خشک ہوا وہ **مُتَبَسِّئُونَ** پر گند
 ہوتا ہے وہ **مُتَبَسِّئُونَ** پرانا ہوتا ہے وہ **مُتَبَسِّئُونَ** ہمیشہ رہتا ہے وہ پتہ

فضل السار مع التار

ی ت

مُتَبَسِّئُونَ بی باب بچہ **مُتَبَسِّئُونَ** دو بے باب کے بچے پتھی بچے بچے
 کے **مُتَبَسِّئُونَ** تمام کرتا ہے وہ **مُتَبَسِّئُونَ** کہتا ہے وہ **مُتَبَسِّئُونَ** جاری ہوتا ہے وہ
مُتَبَسِّئُونَ قوما ہلاک کرتے ہیں وہ **مُتَبَسِّئُونَ** آرزو کرتے ہیں اور کہتے وہ
مُتَبَسِّئُونَ بدل کر چکا وہ **مُتَبَسِّئُونَ** پڑھتا ہے وہ **مُتَبَسِّئُونَ** پڑھتے ہیں وہ
مُتَبَسِّئُونَ پڑھا جائیگا وہ **مُتَبَسِّئُونَ** بیع بیرونی کرتا ہے وہ **مُتَبَسِّئُونَ**
مُتَبَسِّئُونَ بیرونی کرتے ہیں وہ **مُتَبَسِّئُونَ** بیع بیرونی کیا جاتا ہے وہ **مُتَبَسِّئُونَ**
 ظاہر ہوتا ہے وہ **مُتَبَسِّئُونَ** پرہیز کرتا ہے اور بچتا ہے وہ اور کہی یا
 کہ جاتی ہے **مُتَبَسِّئُونَ** بچتے ہیں وہ **مُتَبَسِّئُونَ** گرو نصیحت کہتا ہے وہ
مُتَبَسِّئُونَ نصیحت مانتے ہیں وہ **مُتَبَسِّئُونَ** انتظار کرتا ہے وہ
مُتَبَسِّئُونَ انتظار کرتے ہیں اور امید رکھتی ہیں وہ **مُتَبَسِّئُونَ**
 بیرون وہ **مُتَبَسِّئُونَ** حد سے گذرتا ہے وہ **مُتَبَسِّئُونَ** رجوع کرینگے وہ **مُتَبَسِّئُونَ**
مُتَبَسِّئُونَ بورا لیتا ہے اور مارتا ہے وہ **مُتَبَسِّئُونَ** مارتی ہیں وہ
مُتَبَسِّئُونَ نام لیا جاتا ہے وہ **مُتَبَسِّئُونَ** جان لئے جاتے ہیں وہ پتہ

یسٹہ سڑتا ہے احد بدرہ ہوتا ہے وہ اہل بین یسٹن متنا
 آخر کانوں خلاف قیاس ما سے بدل گیا یسٹہ ہوا یسٹن دیا نہ ہوا
 ہے اور بہکتا ہے وہ یسٹو توبہ کرتا ہے اور عذاب اور قہر سے
 باز آتا ہے وہ یسٹو یسٹون توبہ کرتے ہیں وہ یسٹو یسٹو متغیر ہوتا ہے وہ
 یسٹو یسٹو بزرگ ہو جاوی وہ یسٹو یسٹون اندیش کرتے ہیں وہ یسٹو یسٹون
 سوچتے ہیں اور آخر کام کو اندیش کرتے ہیں وہ یسٹو یسٹو پاک ہوتا ہے وہ
 یسٹو یسٹون پاک ہوتے ہیں وہ یسٹو یسٹون تکبر کرتے ہیں وہ یسٹو یسٹو
 مہربانی کرتا ہے اور نرمی کرتا ہے وہ یسٹو یسٹو اوچک لیجاتا ہے وہ
 یسٹو یسٹو اوچک لیا جاتا ہے وہ یسٹو یسٹو پہرتے ہیں اور بہکتے
 ہیں وہ یسٹو یسٹو اسبجہ پیدا کرینگے وہ یسٹو یسٹون سیکتے ہیں وہ یسٹو یسٹو
 بیبہ بہرتا ہے وہ اور دوست بتاتا ہے وہ اور کہی یا آخر سے گرجانی
 ہے یسٹو یسٹون رفیق بناتی ہیں اور پہرتے ہیں وہ یسٹو یسٹون آپس میں
 مسخ کرتے ہیں وہ یسٹو یسٹو گرو گرو اتے ہیں وہ یسٹو یسٹون چکے کہتے
 ہیں وہ یسٹو یسٹو ایچے رہتے ہیں وہ یسٹو یسٹو یسٹون اسپین پہانتے ہیں وہ
 یسٹو یسٹو لیتا ہے وہ یسٹو یسٹو چہتا ہے وہ یسٹو یسٹو گھونٹ گھونٹ
 لیتا ہے وہ یسٹو یسٹو جگہ پکرتا ہے وہ یسٹو یسٹو ڈھلتا ہے اور رجوع کرتا ہے
 وہ یسٹو یسٹون خاندہ لیتے ہیں وہ یسٹو یسٹون اسپین پوچھتے ہیں وہ
 یسٹو یسٹون بسد کرتے ہیں وہ یسٹو یسٹو پکرتا ہے اور بناتا ہے وہ
 یسٹو یسٹون پکرتے ہیں وہ یسٹو یسٹو چوڑا جاتا ہے وہ یسٹو یسٹو
 چوڑے جائیں گے وہ یسٹو یسٹو جدا ہوتے ہیں وہ یسٹو یسٹون یسٹو یسٹون
 ہوسٹے ہیں اور یسٹو ہوتی ہیں وہ یسٹو یسٹون حیران ہوسٹے ہیں اور

گمراہ ہوتے ہیں وہ **یَتَقَبَّلُ** قبول کرتا ہے وہ **یَقْبَلُ** قبول کیا جاتا ہے وہ
یَسْلُكُونَ سسکتے ہیں اور نکل جاتے ہیں وہ **یَسْرُبُ** راہ دیکھتا ہے
یَسْرُقُونَ امید رکھتی ہیں وہ **یَسْرُكُ** باک ہوتا ہے وہ **یَسْرُجُ** جوتن
جھگڑتے ہیں وہ **یَسْرُكُلُ** ہر دسا کرے وہ **یَسْرُكُونَ** ہر دسا کرتے
ہیں وہ **یَسْرُكُوا** فیصلہ جاتے ہیں وہ **یَسْرُكُونَ** تکیہ لگاتی ہیں وہ
یَسْرُكُونَ جھگڑتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں وہ **یَسْرُكُونَ** پہنچنے وہ
یَسْرُكُونَ آپس میں چہوئیں گے وہ دونوں **یَسْرُكُونَ** آرزو کرتے
ہیں وہ کہی نون گر جاتا ہے **یَسْرُكُلُ** اوترتا ہے وہ **یَسْرُكُمُ** آگے
ہوتا ہے وہ **یَسْرُكُ** چھپے ہوتا ہے وہ **یَسْرُكُونَ** مشورہ کرتے ہیں وہ
یَسْرُكُونَ اکڑتا ہے اور ناز سے چلتا ہے وہ **یَسْرُكُونَ** خواہش کرتے
ہیں اور حد کرتے ہیں وہ **یَسْرُكُونَ** آپس میں کنایہ کرتے ہیں اور
آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں وہ اور نظر حقارت سے دیکھتے ہیں وہ **یَسْرُكُونَ**
آپس میں ملامت کرتے ہیں وہ **یَسْرُكُونَ** بات کرتا ہے وہ **یَسْرُكُونَ** بات
کرتے ہیں اور کرینگے وہ **یَسْرُكُونَ** داور ہوتا ہے اور سرک جاتا ہے وہ

فصل الیاء مع التاء

ی ک

یَسْرُبُ نام مدینہ منورہ کا تھا آگے تشریف لیا جانے حضرت کے اب
یَسْرُبُ کہ نام منع ہے **یَسْرُبُ** ثابت رکھتا ہے وہ **یَسْرُبُ** برتار
رکھتا ہے وہ **یَسْرُبُوا** بہاتے ہیں وہ **یَسْرُبُونَ** پہرتے ہیں اور
دہراتے ہیں وہ **یَسْرُبُوا** پاؤں گے وہ **یَسْرُبُونَ** لڑائی کرے گا اور
فصل الیاء مع الهمزة
یَسْرُبُ جمع کرتا ہے اور **یَسْرُبُونَ** جمع کرتے ہیں وہ **یَسْرُبُ**

ی ک

پاتا ہے وہ یحییٰ زون پاتے ہیں وہ یحیٰ بد جہاد کرنا ہے وہ یحیٰ بد زون
 لڑائی کرتے ہیں وہ یحییٰ رنہاہ دیتا ہے وہ یحیٰ رنہاہ دیا جاتا ہے
 وہ یحیٰ زون نزدیک ہونگے اور ہسائے کرینگے وہ یحیٰ زون رنہاہ
 لیتے ہیں اور گرد گڑا لے ہیں وہ یحیٰ زون روشن کرتا ہے وہ یحیٰ زون
 کہنیتا ہے وہ یحیٰ زون بدلا دیتا ہے وہ یحیٰ زون بدلا دیا جاتا
 ہے وہ یحیٰ زون بدلا دیئے جاتے ہیں اور دیئے جائینگے وہ یحیٰ زون
 بہتا ہے وہ یحیٰ زون گناہ کرتا ہے اور گناہ میں ڈالتا ہے وہ یحیٰ زون
 کرتا ہے وہ یحیٰ زون بناتے ہیں اور کرتے ہیں وہ یحیٰ زون کہنیتا
 ہے وہ یحیٰ زون پسند کرتا ہے اور چہانت لیتا ہے وہ یحیٰ زون
 جہگرتا ہے وہ یحیٰ زون جہگرتے ہیں وہ یحیٰ زون انکار کرتا ہے
 وہ یحیٰ زون انکار کرتے ہیں وہ یحیٰ زون بچتے ہیں وہ یحیٰ زون
 بچایا جائیگا وہ یحیٰ زون جواب دیتا ہے اور مانتا ہی وہ یحیٰ زون
 نادانی کرتے ہیں وہ یحیٰ زون سرکشی کرتے ہیں اور بہاگتے ہیں

ح

فصل البیار مع الحار

یحییٰ نام پیغمبر کا ہے بیٹے زکریا کے علیٰ نبینا و علیہا الصلوٰۃ و
 قصہ اول کا قرآن میں مذکور ہے یحییٰ جیتا ہے وہ اور جیتے گا وہ یحییٰ
 جلاتا ہے وہ یحییٰ دعا دیتا ہے اور سلام کرتا ہے وہ یحییٰ موم و مومن
 کالا بعضے تفسیر میں ہے کہ یحییٰ نام پہاڑ کا ہے آگ کے کہ
 وہ زحیٰ اس کے سایہ میں رنہاہ لینگے یحییٰ زون غمگین ہوتا ہے وہ یحییٰ زون
 غمگین ہوتے ہیں وہ یحییٰ زون غمگین کہتا ہے وہ یحییٰ زون
 احسان کرتے ہیں اور نیک کرتے ہیں وہ

محسب سمجھتا ہے اور گنتا ہے وہ محسبون سمجھتے ہیں وہ محسب
 امید رکھتا ہے وہ محسبون امید رکھتے ہیں وہ محاسب حساب
 کرتا ہے وہ محاسب حساب کیا جائیگا وہ محسب پر محبت دوست رکھتا
 ہے وہ محسبون دوست رکھتے ہیں وہ محسبون حرف پھیرتے ہیں اور
 عبارت میں تغیر و تبدل کرتے ہیں وہ محسبون باہم دشمنی کرتے ہیں اور
 حجت پکڑتے ہیں وہ محسبون باہم دشمنی کرتا ہے وہ محسبون اسپر
 دشمنی کرتی ہیں وہ محسبون فرماتا ہے وہ محسبان حکم کرتے ہیں وہ محسبون
 یعنی داؤد اور سلیمان علیہما السلام محسبون حکم فرماتے ہیں وہ محسبون
 استوار کرتا ہے وہ محسبون حکم بناتی ہیں اور فیصلہ کے واسطے مقرر
 کرتے ہیں وہ محسب حلال ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے اور اوتارتا ہے
 اور کہتا ہے وہ اور کبھی فک اور غم سے محسب بھی پڑھتے ہیں
 محسبون حلال ہوتے ہیں وہ محسب حلال کرتا ہے اور اوتارتا ہے
 وہ محسبون اوتارنے میں اور حلال سمجھتے ہیں وہ محسبون بہنا
 جائیں گے وہ اصل میں محسبون تھا یا قاعدہ صرف سے گر گئی محسبون
 گھیرتے ہیں اور پالتے ہیں وہ محسبون اسرا ہے جائینگے وہ محسب
 پیدا کرتا ہے اور اسرا نہ کہتا ہے وہ محسب حرام کرتا ہے وہ محسبون
 فاروا سمجھتے ہیں محسب ثابت ہوتا ہے وہ محسب درست
 اور سچا کرتا ہے وہ محسب پکڑتا ہے اور گھیرتا ہے
 اور واجب اور لازم ہوتا ہے وہ محسب اوتارتا ہے
 اور گھیرتا ہے وہ محسب گرم کیا جائے گا اور
 وہکا یا جائے گا وہ محسب پھرتا ہے اور خراب

ہوتا ہے وہ **یَحْذَرُونَ** اور سوال و جواب کرتا ہے وہ **يَسْأَلُونَ** ڈرتا ہے وہ
يَحْذَرُونَ ڈرتے ہیں وہ **يَحْذَرُونَ** ڈرتا ہے وہ **يَحْفَظُونَ** نگاہ
 رکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں وہ **يَحْفَظُونَ** بچاتے ہیں وہ **يَحْجِزُونَ**
 نگہبانی کرتے ہیں وہ **يَحْجِزُونَ** گھیرتا جاہلگاہ وہ **يَحْسَبُونَ** کہتا ہے کہ
يَحْسَبُونَ اوٹھاتا ہے وہ **يَحْسَبُونَ** انہاتے ہیں وہ **يَحْمِلُونَ** اوٹھاتی
 ہیں وہ **يَحْمِلُونَ** اوٹھایا جاتا ہے وہ **يَحْمِلُونَ** آونگے کئے جائینگے
 یعنی تعظیم کئے جائینگے وہ **يَحْمِلُونَ** جمع کرتا ہے وہ **يَحْمِلُونَ** جمع کیا
 جاتا ہے وہ **يَحْمِلُونَ** جمع کئے جائینگے وہ **يَحْمِلُونَ** جلتے ہیں اور
 رشک کرتے ہیں وہ **يَحْمِلُونَ** روکے ہے وہ **يَحْمِلُونَ** ناچیز کرے گا وہ
يَحْمِلُونَ حاضر ہوتے ہیں اور نزدیک ہوتے ہیں وہ **يَحْمِلُونَ** ظلم
 کرتا ہے وہ **يَحْمِلُونَ** بہت مانگتا ہے اور مبالغہ کرتا ہے وہ آخر سے
 ہی گرگئی **يَحْمِلُونَ** اور پیسے ہے وہ **يَحْمِلُونَ** صنایع کرتا ہے وہ
يَحْمِلُونَ حین لاتی ہیں وہ **يَحْمِلُونَ** تیز کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے وہ
يَحْمِلُونَ لڑائی کرتے ہیں وہ **يَحْمِلُونَ** مع الحار
يَحْمِلُونَ دشمنی کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں وہ **يَحْمِلُونَ**
 ہاتا صاوسے بدل کر کے اسپین او خام کر دیا اور واسطے رعایت صا
 کے فاکہ کو بھی کس دیا بیان اور کا علم صرف میں تفصل مذکور ہے
يَحْمِلُونَ خاص کرتا ہے وہ **يَحْمِلُونَ** فریب دیتے ہیں وہ **يَحْمِلُونَ**
 اسپین فریب دیتے ہیں اور کہے مجھ کے معنی سے ہے آتا ہے
يَحْمِلُونَ ایک لیتا ہے وہ **يَحْمِلُونَ** باہر نکلتا ہے وہ **يَحْمِلُونَ**
 ہیں وہ **يَحْمِلُونَ** باہر نکالے جائینگے وہ **يَحْمِلُونَ** نکالتا ہے اور باہر

کرتا ہے وہ یختر جابغالتے ہیں وہ دونوں اور نکالنے پھر جون نکالنے ہیں وہ
 یختر جن نکالین وہ یخلف خلاف وعدہ کرتا ہے وہ یخفف ہکا کرنا
 ہے وہ یخفف ہکا کیا جائیگا یخوف ڈراتا ہے وہ یخوفون ڈراتے
 ہیں وہ یخوف ڈریگا وہ یخافا ڈرتے ہیں وہ دونوں یخافون ڈرتے
 ہیں وہ یخفا چہتا ہے وہ یخفون چہتے ہیں اور حسین کے وہ
 یخفون چہتے ہیں وہ یخفین چہتے ہیں وہ یخلفون
 اختلاف کرتے ہیں وہ یخربون خراب اور ویران کرتے ہیں وہ یخسر
 نقصان پاتا ہے وہ یخسرون نقصان پہنچتے ہیں وہ یخسے
 ڈرتا ہے وہ یخشون ڈرتے ہیں وہ یخذل خوار کرتا ہے وہ
 یخصفان سینے میں اور جڑتے ہیں وہ دونوں یعنی آدم اور حوا
 یخترصون اکل کرتے ہیں اور چوہہ کہتے ہیں وہ یخلق پیدا کرتا ہے
 وہ یخلقون پیدا کرتے اور بناتے ہیں اور چوہہ ہاڈتے ہیں وہ فیستولہ
 نقالے یخلقون افکا یخلق پیدا کیا جائیگا وہ یخلقون پیدا کی جاتی ہیں وہ یخزنی
 رسوا کرتا ہے وہ یخزون گرتے ہیں وہ یخسل خالی ہوگا وہ
 واد آخر سے گر گیا یختم مہر کر دیوے وہ یخوضون بیٹتے ہیں
 اور بات میں گھستے ہیں وہ یخشد ہمیشہ رہتا ہے وہ یخشار
 بسد کرتا ہے وہ یخشتا کون دغا کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں
 وہ یخسف بے نور کرتا ہے وہ یخلف بچھ آتا ہے وہ
 یخالفون مخالفت کہتے ہیں وہ یخلفون خلیفہ ہوسکتے
 ہیں اور جانشین بنتے ہیں وہ یخیل خیال کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے وہ

یڈ ماتہ اور نعمت اور قوت یڈرا دو ماتہ یڈے دو ماتہ اور روبرو
اصناف سے گر گیا یڈ حسل داخل ہوتا ہے وہ یڈ حنون داخل
ہوتے ہیں وہ یڈ حسل داخل کیا جا سکا وہ یڈ حسل داخل کرتا ہے
وہ یڈ حنون بلاتا ہے وہ یڈ حنون بلاتے ہیں وہ یڈے بلایا جاتا
ہے وہ یڈ حنون بلاتے جاتے ہیں وہ یڈے دیکھتا ہے اور نکال
دیتا ہے وہ یڈ حنون دیکھتے جاتے وہ یڈ حنون دیکھتے کرتے
ہیں وہ یڈ زون دفع کرتے ہیں اور کاشتے ہیں وہ یڈ حنون دین
اختیار کرتے ہیں وہ یڈ حنون نزدیک کرتے ہیں اور چمکاتے اور
ٹکاتے ہیں وہ یڈ ریک پاتا ہے وہ اور بکری لگا وہ یڈ افق دور کرتا ہے
اور کریگا وہ یڈ بر تبر کرتا ہے وہ یڈ بر واسو چتے ہیں وہ
یڈ منع توڑتا ہے اور پھوڑتا ہے وہ یڈ حنون ناچیز کرتے ہیں وہ یڈ سن
داتا ہے وہ یڈ حنون پڑتے ہیں وہ یڈ حنون خبر دار کرتا ہے وہ

فصل البیار مع الذال

یڈ حنون فوج کرتا ہے اور کھلا کھاتا ہے وہ یڈ حنون فوج کرتے ہیں وہ یڈ حنون
یاد کرتے ہیں وہ یڈ گرو یاد کیا جاتا ہے وہ یڈ گرو نصیحت پکڑتا ہے وہ
یڈ گرو نصیحت مانینگے وہ یڈ ر چوڑتا ہے وہ یڈ حنون
چوڑتے ہیں وہ یڈ حنون چکھتا ہے وہ یڈ حنون چکھتے ہیں وہ
یڈ حنون چکھتا ہے وہ یڈ حنون جاتا ہے وہ یڈ حنون جاتے
ہیں وہ دونوں اور یڈ حنون بطریقہ المثلے بمعنی لیجاتے
ہیں وہ بار تقدیر کے ہے یڈ حنون جاتے ہیں وہ یڈ حنون
لیجاتا ہے وہ یڈ حنون لیجاتے ہیں وہ

فصل الیاء مع الراء

یَرْجُونَ امید رکھتے ہیں اور سجاظ کرتے ہیں وہ یَرْجُوا امید رکھتا ہے
 وہ یَرْجُونَ امید رکھتے ہیں وہ یَرْجُوعُ برتا ہے وہ یَرْجَعُونَ پہرتے
 ہیں وہ یَرْجُوعُ پہرا جائیگا وہ یَرْجَعُونَ پہرے جائینگے وہ یَرْجَعُونَ
 سنگار کریں گے وہ یَرْجُوعُ دیکھتا ہے وہ یَرْجُونَ دیکھتے ہیں وہ یَرْجُوعُ
 دیکھا جائیگا وہ یَرْجُوعُ دیکھاتا ہے وہ یَرْجُونَ دیکھتے ہیں وہ
 یَرْجُوعُ ارادہ کرتا ہے وہ یَرْجُوعُ ارادہ کرتے ہیں وہ دونوں
 یَرْجُوعُونَ ارادہ کرتے ہیں وہ یَرْجُوعُونَ ارادہ کیا جاتا ہے وہ یَرْجُوعُونَ
 پہرتے ہیں وہ یَرْجُوعُونَ پہرا جاتا ہے وہ یَرْجُوعُونَ پہرے جاتے ہیں وہ
 یَرْجُوعُونَ پہرتا ہے وہ اور کبھی یَرْجُوعُونَ فکاد غام سے ہی پڑتے ہیں
 یَرْجُوعُونَ تباہ کرتے ہیں وہ یَرْجُوعُونَ شک کرتا ہے وہ یَرْجُوعُونَ
 شک کرتے ہیں وہ یَرْجُوعُونَ بلند کرتا ہے اور اوٹھاتا ہے وہ یَرْجُوعُونَ
 فراغت سے یَرْجُوعُونَ راہ پالتے ہیں وہ یَرْجُوعُونَ بہجتا ہے وہ
 یَرْجُوعُونَ دودھ پلاتے ہیں وہ یَرْجُوعُونَ خوش ہوتا ہے وہ یَرْجُوعُونَ
 خوش ہوتی ہیں وہ یَرْجُوعُونَ خوش ہوتی ہیں اور ہونگے وہ یَرْجُوعُونَ
 راضی کرتے ہیں وہ یَرْجُوعُونَ گھوڑا اوٹھاتے ہیں اور اڑتے ہیں
 وہ یَرْجُوعُونَ پہنکتا ہے اور تہمت کرتا ہے وہ اور کبھی آخر سے پاگرتے
 ہے یَرْجُوعُونَ تہمت کرتے ہیں اور عیب لگاتے ہیں وہ یَرْجُوعُونَ روز
 دہتا ہے وہ یَرْجُوعُونَ روزی دینے جائینگے وہ یَرْجُوعُونَ خواہش
 کرتا ہے اور انکار کرتا ہے وہ اور انکار کرنے اور منہ پھینکنے کے معنی
 میں اور سوخت آتا ہے کہ یہ فعل ناقبل ہو اور صرف عن کا بعد اول

ی ر

یَرْجُوعُونَ دیکھتا ہے
 یَرْجُوعُونَ دیکھتا ہے
 یَرْجُوعُونَ دیکھتا ہے

فعل کے واقع ہوئے محبواً اور کرتے ہیں وہ یزعم مہربانی کرتا ہے وہ
 یزہنون دہرتے ہیں وہ یزلبط باندہت ہے اور مضبوط کرتے گا وہ
 یزیش وارث ہوتا ہے وہ یزکون وارث ہوتے ہیں وہ
 یزمنق ومانکن ہے وہ یزہرق عاجز کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے وہ
 یزلقوا جڑتے ہیں وہ یزکم تہ بہ تہ رکھیکا اور ڈھیر کرے گا وہ
 یزکسوں سوار ہوتے ہیں وہ یزکعون رکوع کرتے ہیں اور
 جھکتے ہیں وہ یزبوف نامدہ مند ہوتا ہے وہ یزنی بڑھاتا ہے

ی س

فصل الیاء مع الزاء

یز کے سنوارتا ہے اور پاک ہوتا ہے وہ یزکی پاک کرتا ہے وہ
 یزکون پاک کرتے ہیں اور سنوارتے ہیں وہ یزال دور ہوتا ہے
 اور جیسا کہ حرف نفی آتا ہے بمعنی دوام اور ترار کے ہوتا ہے
 قَالَ اللَّهُ لَعْنَالِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَزَالُونَ سُرُكْتِ هِن
 اور دہر ہوتے ہیں وہ یزکون زنا کرتے ہیں وہ یزین زنا کرنے
 وہ یزید زیادہ دیتا ہے اور بڑھاتا ہے وہ یزیدون بہت ہونگے وہ
 یزداو زیادہ ہوتا ہے وہ یزداووا بہت ہونگے یزلیع میرا ہوگا وہ
 یزعمون گمان کرتے ہیں وہ یزفون دورتے ہیں اور گھبراتے
 ہیں وہ یزرون بوجہ اوٹھاتے ہیں وہ یزرجی جلاتا ہے اور اوٹھاتا
 ہے وہ یزروج جڑا دیتا ہے اور ملاتا ہے وہ یزفون پہلے ہیں اور گاتے

ی س

فصل الیاء مع سین

یس نام ایک پتھر کا ہے علی سینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ پتھر
 ہنسی کرتا ہے وہ یزوان ہنسا کرتے ہیں وہ یزہری ہنسا کیا

کہا جاتا ہے وہ **سُخِرُ مَسْنِي** کرتا ہے وہ **سُخِرُ مَسْنِي** کہتے ہیں وہ
سُخِرُ مَسْنِي کہتے ہیں وہ **سُخِرُ مَسْنِي** کہتے ہیں وہ -
سُخِرُ مَسْنِي بشر مانتا ہے اور جینا رکھتا ہے وہ **سُخِرُ مَسْنِي** زندہ چھوڑتے
 ہیں وہ **سُطِيعُ طَاقِت** رکھتا ہے وہ اور کہی جی گر جاتے ہے
سُطِيعُ رِبْتَا ہے وہ **سُطِيعُونَ طَاقِت** رکھتے ہیں وہ -
سُطِيعُونَ مدد چاہتے ہیں اور فتح مانگتے ہیں وہ **سُطِيعُونَ** جواب
 دیتا ہے اور قبول کرتا ہے وہ **سُطِيعُونَ** جواب دیتے ہیں وہ **سُطِيعُونَ**
 خون ریزی کرتا ہے وہ **سُطِيعُونَ** تہکتا ہے وہ **سُطِيعُونَ** ملول ہوتے
 ہیں وہ **سُطِيعُونَ** چکھاتا ہے وہ **سُطِيعُونَ** ستاتے ہیں اور چکھاتے
 ہیں وہ **سُطِيعُونَ** کھینچتا ہے وہ **سُطِيعُونَ** کھینچتا ہے وہ
 وہ **سُطِيعُونَ** سناٹا ہے وہ **سُطِيعُونَ** خوب سنتے ہیں وہ اصل میں
سُطِيعُونَ تھکتے ہیں **سُطِيعُونَ** سین ہوگئی سین کو سین میں ادغام کیا
سُطِيعُونَ مانگتا ہے اور پوچھتا ہے وہ **سُطِيعُونَ** پوچھتے ہیں
 اور مانگتے ہیں وہ **سُطِيعُونَ** پوچھا جاتا ہے وہ **سُطِيعُونَ** پوچھے
 جائینگے وہ **سُطِيعُونَ** سجدہ کرتا ہے وہ **سُطِيعُونَ** سجدہ کرتے ہیں
 وہ دونوں **سُطِيعُونَ** سجدہ کرتے ہیں وہ **سُطِيعُونَ** دوڑتے
 ہیں وہ **سُطِيعُونَ** خوش ہوتے ہیں وہ **سُطِيعُونَ** بچتا ہے
 اور پرہیز کرتا ہے وہ **سُطِيعُونَ** بچتے ہیں وہ **سُطِيعُونَ** تنگ
 رکھتا ہے اور عیب جانتا ہے وہ **سُطِيعُونَ** کمزور سمجھتا ہے وہ
سُطِيعُونَ کمزور پائے جاتے ہیں وہ **سُطِيعُونَ** غلبہ کرتا ہے
 وہ **سُطِيعُونَ** استننا کرتے ہیں وہ **سُطِيعُونَ** استننا کرتے ہیں

یَسْتَقْوُونَ کینے جاتے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ پورا ایسے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ
 اجازت جاتے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ دوست رکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں وہ
 یَسْتَقْوُونَ خواہتا کرتے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ فریاد کرتے ہیں وہ دونوں
 یَسْتَقْوُونَ فریاد جاتے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ پہلاتا ہے اور زمین سے
 باہر کرتا ہے وہ یَسْتَقْوُونَ ٹوکاتے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ جا خالین کے
 باہر کرینگے وہ دونوں یَسْتَقْوُونَ دریافت کرتے ہیں اور چنتے ہیں وہ
 یَسْتَقْوُونَ جلدی کرتے ہیں اور مٹھی کرتے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ دیر
 کرتے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ گالی دیتے ہیں اور برا کہینگے وہ یَسْتَقْوُونَ باکی
 بولتا ہے وہ یَسْتَقْوُونَ تسبیح کرتے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ پاکی سے یاد کرتے
 ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ تسبیح کیا جاتا ہے وہ یَسْتَقْوُونَ ہرتی ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ
 قید کرتا ہے وہ یَسْتَقْوُونَ قید کیا جاتا ہے وہ یَسْتَقْوُونَ بخش جاتا ہے وہ
 یَسْتَقْوُونَ بخش جاتے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ بدل بدلتا ہے وہ یَسْتَقْوُونَ جلد
 کرتا ہے وہ یَسْتَقْوُونَ جلدی کرتے ہیں اور شتابی جاتے ہیں یَسْتَقْوُونَ
 پروانگی جاتا ہے وہ یَسْتَقْوُونَ اجازت جاتے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ
 ناخوش ہوتے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ جلاتا ہے اور سیر کر دانا ہے وہ
 یَسْتَقْوُونَ سیر کر دانا ہے وہ یَسْتَقْوُونَ جلاتا ہے اور رات کو سیر
 کرتا ہے وہ اصل میں یَسْتَقْوُونَ تہا تہی واسطے رعایت فو اصل کے
 گرگنی یَسْتَقْوُونَ ہونا یَسْتَقْوُونَ آسانی یَسْتَقْوُونَ آسان کیا اور سنی یَسْتَقْوُونَ
 آسان کیا یعنی یَسْتَقْوُونَ آسان کر تو یَسْتَقْوُونَ آسان اور تہور یَسْتَقْوُونَ
 آگاہی جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ ہلکا ہوتا ہے وہ یَسْتَقْوُونَ
 چہیتے ہیں وہ یَسْتَقْوُونَ کپڑے لپیٹتے ہیں اور چہیتے ہیں وہ -

یَسْتَوِي بَرَابِر ہوتا ہے وہ یَسْتَوِيَان بَرَابِر ہین اور یَسْتَوِيَان
 یَسْتَوُونَ بَرَابِر ہوتے ہین وہ یَسْتَوِيَان ہوتا ہے وہ یَسْتَوُونَ
 بلائی ہین وہ یَسْتَوِيَان بلا یا جاتا ہے وہ یَسْتَوُونَ بلائے جاتے
 ہین وہ یَسْتَوِيَان بلائے ہین وہ یَسْتَوِيَان جراتا ہے وہ یَسْتَوِيَان
 جراتے ہین وہ یَسْتَوِيَان آسانی سے طلق سے اور تر تا ہر وہ یَسْتَوِيَان
 جلتا ہے وہ یَسْتَوِيَان اسراف کرتا ہے اور یَسْتَوِيَان خراج کرتا ہے وہ
 یَسْتَوِيَان اسراف کرتے ہین وہ یَسْتَوِيَان چہاٹے ہین وہ یَسْتَوِيَان
 سونپتا ہے وہ یَسْتَوِيَان اسلام لاتے ہین اور تا بعداری کرتے ہین
 یَسْتَوِيَان قبول کرتے ہین اور سلام کرتے ہین وہ یَسْتَوِيَان ہلاک
 کرتا ہے اور ہڈی جدا کرتا ہے وہ یَسْتَوِيَان دھڑاتا ہے وہ یَسْتَوِيَان
 دھڑاتے ہین اور کوشش کرتے ہین وہ یَسْتَوِيَان عود کرتا ہے وہ
 یَسْتَوِيَان سخت کرتے ہین وہ یَسْتَوِيَان ہفتہ کرتے ہین وہ
 یَسْتَوِيَان مہنگے ہوتا ہے وہ یَسْتَوِيَان سبقت کرتے ہین وہ یَسْتَوِيَان
 حملہ کرتے ہین اور قہر کرتے ہین وہ یَسْتَوِيَان لہجاتا ہے وہ یَسْتَوِيَان
 پہنکتے ہین اور خلاص کرتے ہین وہ یَسْتَوِيَان فریاد جاتا ہے وہ
 یَسْتَوِيَان عتاب رفع کئے جائینگے یعنی منائے جائینگے وہ یَسْتَوِيَان
 کھاج ہین لاتا ہے وہ یَسْتَوِيَان کھاج ہین لاتے ہین وہ دونوں
 یَسْتَوِيَان گرم کئے جائینگے وہ یَسْتَوِيَان کہنے عابین گے وہ
 یَسْتَوِيَان رہتا ہے وہ یَسْتَوِيَان رہتے ہین وہ یَسْتَوِيَان آرام دیتا ہے
 اور یَسْتَوِيَان نام رکھتی ہین وہ یَسْتَوِيَان کہتے
 ہین وہ یَسْتَوِيَان غالب کرتا ہے اور غلبہ دیتا ہے وہ

یَضْمُ روزہ رکبتا ہے وہ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهَادَةَ فَلْيُصِمْهُ وَأَوْسِبْ
 اجتمع ساکنین کے گریب یَضْمُ نماز پڑھتا ہے اور درود ہیجتا ہے وہ
 یَضْمُونَ نماز پڑھتے ہیں اور رحمت ہیجتے ہیں وہ یَضْمُ اگ کو پہنچانے
 وہ یَضْمُونَ اگ کو پہنچنے میں اور پہنچیں گے وہ یَضْمُونَ جوڑتے
 ہیں اور ملاتے ہیں وہ یَضْمُ سولی دیا جائیگا اور ہونا جائیگا اور
 ہڈی سے منفر نکالا جائیگا وہ یَضْمُ کبوا سولی دیئے جائیں گے وہ
 یَضْمُ اصلاح کرتا ہے وہ یَضْمُ دست کرتے ہیں اور مراغت
 کرتے ہیں وہ دو وزن یَضْمُونَ سزا دیتے ہیں وہ یَضْمُ جن لبتا
 ہے وہ یَضْمُ پہنچتا ہے وہ یَضْمُ ڈالا جائے گا وہ
 یَضْمُ بناتا ہے وہ یَضْمُونَ بناتے ہیں اور کرتے ہیں وہ
 یَضْمُ سہارتا ہے وہ یَضْمُ وا صبر کرتے ہیں وہ یَضْمُ
 ہٹ کرتا ہے وہ یَضْمُونَ ہٹ کرتے ہیں اور اڑ کرتے ہیں وہ
 یَضْمُ اتدیکو وہ یَضْمُ پرے گا وہ یَضْمُ چڑھتا ہے
 وہ یَضْمُ شکل سے چڑھتا ہے وہ یَضْمُ سوکتا ہے وہ -
 یَضْمُونَ روکتے ہیں وہ یَضْمُ قُوجاتا ہے وہ یَضْمُونَ
 سجاتے ہیں وہ یَضْمُ قُوا خیرات کرتے ہیں وہ یَضْمُ عُونَ جدا
 جدا ہونے یَضْمُ عُونَ سر دکھائے جائینگے وہ یَضْمُونَ
 مصاحبت کئے جائینگے وہ یَضْمُ پھرتا ہے وہ یَضْمُ
 ہمیسرا جائیگا وہ یَضْمُ قُونَ پیر سے جائیں گے وہ یَضْمُونَ
 سراپتے ہیں وہ یَضْمُونَ بیہوش کئے جائیں گے وہ یَضْمُونَ
 توڑیں گے وہ یَضْمُ قُونَ فریاد کرتے ہیں وہ یَضْمُ وا گذر

کرتے ہیں وہ یَضْرِبُ قَوْلًا کنارہ کرتے ہیں وہ یَضْرِبُ مِکْبَلًا یا جَائِگَا
یَضْبِحُ صبح کریگا اور ہو جائیگا وہ یَضْبِحُوا ہونگے وہ یَضْوَرُّ مَسَدًا
بناتا ہے اور پیدا کرتا ہے وہ ۛ فَضْلُ الْبَارِ مَعَ لُضَادٍ ۛ
یَضْرِبُ بیان کرتا ہے اور مارتا ہے وہ یَضْرِبُونَ مارتے
ہیں اور چلتے ہیں اور بیان کرتے ہیں وہ یَضْرِبُونَ مَاتِمًا ہیں اور
پہنیز ہیں وہ یَضْرِبُ نَقْصَانَ کرتا ہے وہ یَضْرِبُونَ نَقْصَانَ پہنچاتے
ہیں وہ یَضْرِبُ نَقْصَانَ پہنچا یا جائیگا وہ یَضْرِبُ بَکْتَابًا ہے وہ
یَضْرِبُ گراہ کئے جاتے ہیں وہ یَضْرِبُ گراہ کرتا ہے وہ او
فَا و غَا م سے یَضْرِبُ ہی پڑتے ہیں یَضْرِبُونَ گراہ کرتے
ہیں وہ یَضْرِبُ نَاجِزًا کرتا ہے وہ یَضْرِبُ رَکْبَابًا ہے وہ یَضْرِبُ
رَکْبَابًا ہیں اور جتین ہیں وہ یَضْرِبُ نَکْلًا کرتا ہے وہ یَضْرِبُ نَکْلًا
رِس کرتے ہیں وہ اپنے مشابہت کرتے ہیں وہ یَضْرِبُ نَکْلًا کرتا ہے
وہ یَضْرِبُ نَکْلًا دو ناکیا جائیگا وہ یَضْرِبُ نَکْلًا مَہَانًا کریگے وہ ۛ
یَضْرِبُ نَکْلًا گراہانی ہیں وہ یَضْرِبُ نَکْلًا ہنستے ہیں وہ یَضْرِبُ نَکْلًا
یَضْرِبُ نَکْلًا

ی ط

فصل البار مع الطار

یَطْوِفُ پرتا ہے وہ یَطْوِفُ قَوْلًا پرتے ہیں وہ یَطْوِفُ
پہرایا جاتا ہے وہ یَطْوِفُ طَوَافٌ کرے وہ یَطْوِفُ قَوْلًا خوب
طواف کرتے ہیں وہ یَطْوِفُ کہلاتا ہے وہ یَطْوِفُ مِکْبَلًا
جاتا ہے وہ یَطْوِفُ کہلاتا ہے وہ یَطْوِفُونَ کہلاتی
ہیں وہ یَطْوِفُ قَوْلًا طَوَافٌ ہنستے جاتیں گے وہ یَطْوِفُ
ۛ مَہَرًا کرتا ہے وہ یَطْوِفُ مِکْبَلًا آرام پکڑتا ہے وہ ۛ

يُظهِرُ بَاكٍ كَرْتَابِي وَهُوَ يُظهِرُ وَنَ بَاكٍ هُوَ تَابِي هُنَّ وَهُوَ اَوْر
 حَمْرَه اَوْر كَسَانِي اَوْر حَامِص اَوْر عِبَاس لِي يُظهِرُ وَنَ تَشَدِيدُ طَبَلَه
 اَوْر حَارِصَه بَرَّابِي لِيَعْنِي خَوْبَ بَاكٍ مَوْدِيْنِ لِي هِنَا لِيُوِيْنِ لِيَطْلَعُ
 اَكَاَه كَرْتَابِي وَهُوَ لِيَطْمَعُ حُرْص كَرْتَابِي وَهُوَ لِيَطْمَعُوْنَ بَرُوسَا كَرِيْ
 مِيْنِ اَوْر اَرَز وَر كَحْتِي هُنَّ وَهُوَ لِيَطْوُوْنَ كَهْدَلْتِي هُنَّ وَهُوَ لِيَطْلُبُ
 وَهَوْنُوْذ مِتَابِي وَهُوَ لِيَطِيْتُ رُوْشُوْمِي بَكْرَتِي هُنَّ اَوْر خَالِي بَدِي كَحْتِي هُنَّ
 لِيَطِيْتُ اَوْر تَابِي وَهُوَ لِيَطْفِنُوْا بَجَهَاتِي هُنَّ وَهُوَ لِيَطْعُ اسْر كَشِي
 كَرْتَابِي وَهُوَ لِيَطِيْعُ فَرَاْمَانِ بَرُوَارِي كَرْتَابِي وَهُوَ لِيَطِيْعُوْنَ بَرُوْسِي
 كَرْتَابِي هُنَّ وَهُوَ لِيُطَاعُ حَكِيْمًا مَانَا جَابِيْنِكَا وَهُوَ لِيُطِيْفُوْنَ طَاقْتِ رَاكَحْتِي
 مِيْنِ وَهُوَ لِيُطِيْبُ سَا تَهْتِي سَوَاتَابِي اَوْر مَاتَهْتِي لِكَا تَابِي اَوْر جِهَتَابِي

فصل البياض مع الظاهر

لِيُظْهِرُ لِمَانٍ كَرْتَابِي وَهُوَ لِيُظْهِرُ لِمَانٍ كَرْتَابِي هُنَّ وَهُوَ لِيُظْهِرُ
 لِي اَنْصَا فِي كَرْتَابِي وَهُوَ لِيُظْهِرُ لِي ظَلْم كَرْتَابِي هُنَّ وَهُوَ لِيُظْهِرُ لِي ظَلْم
 كَحْتِي جَابِيْنِ كِي وَهُوَ لِيُظْهِرُ ظَاهِر كَرْتَابِي اَوْر غَالِب كَرْتَابِي وَهُوَ
 لِيُظْهِرُ وَفَرْنَ جَرْتَابِي هُنَّ اَوْر غَالِب هُوْلَتِي هُنَّ وَهُوَ لِيُظْهِرُ وَفَرْنَ
 اَلِيْسِيْنِ مَدْر كَرْتَابِي هُنَّ وَهُوَ لِيُظْهِرُ وَفَرْنَ هُنَّ اَوْر سَا يَدْر اَلْتِي هُنَّ وَهُوَ

فصل البياض مع العين

لِيُعْجَبُ عَلَمٌ بِيْنِيْ سَمْحٌ كَابِي عَلِيْ نَسِيْمَا رَعْلِيَه الصَّلُوْتِ وَهَلَام
 لِقَبْتِ الْكَا اِسْرَائِيْلِي هُنَّ ذِكْرَانِكَا تَرَانِ مِيْنِ مَفْصَلِيْ هِي لِيُعْوَقُ وَر كَتَا
 سَمِيْلَه رِيَا مَبْتِ كَابِي كَرْتَابِي وَهُوَ لِيُعْوَقُ نَوْجِ عَلِيَه السَّلَامِ كِي لِيُعْوَقُ نَوْجِ
 لِيُعْوَقُ نَوْجِ عَلِيَه السَّلَامِ كِي لِيُعْوَقُ نَوْجِ عَلِيَه السَّلَامِ كِي لِيُعْوَقُ نَوْجِ

ی ظ

ی ع

اسکو شیو کہتے ہیں حقیقت میں نام ایک بیٹے اور پس علیہ السلام کا ہے
 شیطان کے فریب سے بصورت بت کے بنا کے پوجتے تھے بعد
 طرفان کے بنو کہلان کے ہاتھ لگا اور اسی بنو ہمدان کو پہنچا
 يَعْفُوُ معاف کرتا ہے وہ يَعْفُوُ معاف کرتے ہیں وہ فی قولہ
 تَعَالَى فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُوا الْآيَةَ بِه يَعْفُونَ معاف کرتے ہیں اور
 گذرتی ہیں وہ فی قولہ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمْ
 عَقْدَةُ النِّكَاحِ بِه يَعِضُّنَ کاٹ کہا ویگا وہ يَعْقِلُ سمجھتا ہے وہ يَعْلَمُ
 جانتا ہے وہ يَعْلَمُونَ جانتے ہیں وہ يَعْلَمُ سکہا تاہی وہ يَعْلَمَانِ
 سکھاتے ہیں وہ وَعِلْمُونَ يَعْلَمُونَ سکھاتے ہیں وہ يَعِدُ وعدہ
 دیتا ہے وہ يَعِدُونَ حد سے بڑھتے ہیں وہ يَعِدُونَ حد سے
 تجاوز کرتے ہیں وہ يَعْوَدُونَ پھرتے ہیں وہ يَعْبُدُ پہرتا ہے
 يَعْبُدُوا پہرتے ہیں اور پہرینکے وہ يَعْبُدُونَ ظاہر کرتے ہیں وہ
 يَعْقِلُونَ عقل کہتے ہیں وہ يَعْبِبُ خوش آتا ہے وہ يَعْمَلُ کام
 کرتا ہے وہ يَعْمَلُونَ کام کرتے ہیں وہ يَعِظُ نصیحت کرتا ہے وہ
 يَعْنِي تہکتا ہے وہ يَعْسُرُ آباہ کرتا ہے وہ يَعْسُرُوا آباہ کہتے
 ہیں وہ يَعْسُرُ عسر دراز کیا جائیگا وہ يَعِصُ نافرمانی کرتا ہے
 یا آخر سے گرگے يَعْصُونَ نافرمانی کرتے ہیں وہ يَعْصِينَ نافرمانی
 کرتے ہیں وہ يُعْطَى دیتا ہے وہ يُعْطُوا دیتے ہیں وہ يُعْطَوْنَ اے
 جائینگے وہ يَعْوَدُونَ پناہ لیتے ہیں وہ يَعْرِشُونَ چت بناتے ہیں
 اور مند و اچڑ ماسے ہیں وہ يَعْكُمُونَ اوندھے ہوتے ہیں اور سُرْمُونَ
 کرتے ہیں وہ يَعْزِلُونَ انصاف کرتے ہیں اور برابر کرتے ہیں اور

تجاوز کرتے ہیں وہ **لَعْبَرٌ** عاجز کرتا ہے وہ **لَعْبِرُونَ**
 تہکا دین گے وہ **لَعْبُدٌ** پوجتا ہے وہ **لَعْبُدُونَ** پوجتے
 ہیں وہ **لَعْبَرُضَنٌ** روبرو کیا جائیگا وہ **لَعْبَرُضُونٌ** ظناہر
 کیئے جائیں گے وہ **لَعْبِرُضَنٌ** موہنہ پہیرتا ہے وہ **لَعْبِرُضُونٌ**
 موہنہ پہیرنیگے وہ **لَعْبِرُفُونٌ** پہچانتے ہیں وہ **لَعْبِرُفُونٌ** پہچانا
 جاتا ہے وہ **لَعْبِرْفَنٌ** پہچانین جاتین ہیں وہ **لَعْبِرْفُونٌ** بہانہ
 کرتے ہیں **لَعْبِرُفُونٌ** بخوڑتے ہیں وہ **لَعْبِرْفَمٌ** بزرگ کرتا ہی
 اور بڑا سمجھتا ہے وہ **لَعْبِرْفَمٌ** بزرگ رکھے وہ **لَعْبِرْفَمٌ** بچاتا ہے
 وہ **لَعْبِرْفَمٌ** چکل مارتا ہے وہ **لَعْبِرْفَمٌ** چہیتا ہے اور دو
 ہوتا ہے وہ **لَعْبِرُفَمٌ** بردا کرتا ہے اور بہا رہی سمجھتا ہے وہ **لَعْبِرْفَمٌ**
 شتابی کرتا ہے وہ **لَعْبِرُفَمٌ** لُؤا کنارہ پکڑتے ہیں وہ **لَعْبِرْفَمٌ**
 دیر کرتا ہے اور پھمے کرتا ہے وہ **لَعْبِرُفَمٌ** چڑھتا ہے وہ **لَعْبِرُفَمٌ**
 چڑھتے ہیں وہ **لَعْبِرُفَمٌ** شکنجے میں لیتا ہے وہ **لَعْبِرُفَمٌ** سرگردا
 ہوتے ہیں وہ **لَعْبِرُفَمٌ** اعراض کرتا ہے اور موہنہ پہیرتا ہے
 وہ **لَعْبِرُفَمٌ** یغشوا ہتا واد آخر سے گر گیا ہے

فصل الیاریع لغین

سیخ

لَعْبَرُفَمٌ فریاد پہنچتا ہے وہ نام ہے ایک بت کا کہ قوم نوح علیہ السلام اسکو
 منظر عیاش المستغیثین کا سہم کر بصورت گھوڑیکے بنا کر پوجتے تھے
 اور مشکل کے وقت پکارتی تھی اور ہنود اسکو اندر کہتے ہیں اور حقیقت میں
 یہ بہ نام تھا ایک بیٹے اور یس علیہ السلام کا آخر کو بنی طے کے ماتہ لگا
 اہلنے بنو ناحیہ نے چین لیا اور مدت تک پوجتے تھے **لَعْبِرُفَمٌ**

غوطی لگاتی ہیں وہ یُعَاثُ مینہ دینی جائیں گے وہ یُعَاثُوہن تیار
 پہنچے جائینگے وہ نونِ آخر سے گر گیا یُعْتَمِدُ بی پروا کرتا ہی وہ یُعْتَمِدُ
 بے پروا کرتے ہیں وہ دونوں نونِ اعرابی گر گیا یُعْتَوِا بے نیاز کرتے ہیں وہ
 نونِ آخر سے ساقط ہو گیا یُعْتَوِرُ رہتے ہیں وہ اور تھے نونِ اعرابی گر گیا
 یُعَاوِرُ چھوڑتا ہے وہ یُعْفِرُ بخشتا ہے وہ یُعْفِرُونَ بخشتے ہیں وہ
 یُعْفِرُ مبخشا جائیگا اور گناہ ڈھانپا جائیگا یُعْفِرُ ڈھانتا ہی وہ یُعْفِرُ
 ڈھانتا ہے وہ یُعْشِي جھاتا ہے وہ یُعْلِبُ غالب ہو گا وہ یُعْلِبُوا
 غالب ہونگے وہ نونِ گر گیا یُعْلَبُونَ مغلوب ہونگے وہ یُعْضُونَ
 آنکھ نیچے کرتے ہیں وہ یُعْضَضْنَ آنکھ نیچے کرتیں ہیں وہ یُعْضِطُ
 خفا کرتا ہے وہ یُعْتَبِرُ بدلتا ہے وہ یُعْتَبِرُوا بدلتے ہیں وہ
 یُعْتَرِفُ فریب دیتا ہے وہ اور کہی یُعْرُرُ فک ادغام سے ہی پڑتے
 ہیں یُعْرِقُ ڈبواتا ہے وہ یُعَلِّی کہو لیا یعنی جوش کہا لیا وہ یُعْتَبُ
 غیب کرتا ہے وہ یُعْوِی بے راہ کرتا ہے وہ یُعْشَلُ چھپاتا
 ہے وہ اور خیانت کرتا ہے وہ اور کہی یُعْلَلُ فک ادغام سے ہی پڑتے ہیں

ی ف

فصل الیامع الفاء

یُقَدُّ بگاڑتا ہے وہ یُقَدُّونَ خرابے کرتے ہیں وہ
 یُقَدِّحُ مراد کو پہنچتا ہے وہ یُقَدِّحُونَ مراد کو پہنچیں گے
 وہ یُقَعِّلُ کرتا ہے وہ یُقَعِّلُونَ کرتے ہیں وہ -
 یُقَعِّلُ کیا جاتا ہے اور کیا جائیگا وہ یُقَفِّحُ خوش ہوتا ہے

يُفْرَحُونَ خوش ہوتے ہیں وہ یفتریٰ فتر کرتا ہے وہ یفترون بہتان کرتے ہیں وہ یفترین فتر کرینگے اور جو ہرہہ ہاتھ میں گئے وہ یفتر کے جو ہرہہ ہاندنا جاتا ہے وہ یفتر بلکا کیا جائیگا وہ یفترن آزماتا ہے وہ یفترتوں جا بختی میں وہ یفترتوں جانچے جاتے ہیں اور عذاب کئے جاتے ہیں وہ یفترنی خذیہ دیتا ہے اور جہڑوائی دیتا ہے وہ یفتر دوا چڑوائی دیے جائینگے وہ یفصل عدا کرتا ہے اور مفصلہ کرتا ہے وہ یفصل بیان کرتا ہے وہ یفجر نافرمانی کرتا ہے وہ یفجرتوں بہانی میں وہ یفح کہوتا ہے وہ یفح کنادہ کرتا ہے وہ یفترقون جدائی ڈالتے ہیں وہ یفترق فرق کیا جائیگا وہ یفترقون تفریق کرتے ہیں اور پھوٹ ڈالتے ہیں وہ یفترقون جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ یفطر سرکشی کرتا ہے اور تقصیر کرتا ہے وہ یفطون قصور کرتی ہیں وہ یفتے فتویٰ دیتا ہے وہ یفتر بہانگی وہ یفسعون نافرمانی کرتے ہیں

فصل الیاء مع القاف

یقول کہتا ہے وہ یقولاً کہتے ہیں وہ دونوں یقولون کہتے ہیں سب یقال کہا جاتا ہے وہ یقوم کہرا ہوتا ہے وہ یقولان کہرے ہوتے ہیں وہ دونوں یقومون کہرے ہوتے ہیں وہ یقیمما کہرے سکتے ہیں وہ دونوں یقیمون درست کرتی ہیں اور قائم رکھتے ہیں وہ یقطع کاٹتا ہے وہ یقطعون کاٹتے ہیں وہ یقبل متبول کرتا ہے وہ یقبل متبول کیا جاتا ہے وہ یقتل قتل کرتا ہے وہ یقتلون ہانسنے مارتی ہیں یقتلن مارتی ہیں وہ یقتل مارا جاتا ہے وہ یقتلون مارے جاتی ہیں وہ یقاتل لڑائی کرتا ہے وہ یقاتلون آپس میں لڑائی کرتی ہیں

یاق

یَقْتُلَانِ لِرَأْسِ كَرْتِي هِنِ مَدِ دُونِ يَقْتُلُونِ مَكْرَسَ مَكْرَسَ كَرْتِي
 هِنِ وَهْ يَقْتُلُو بَارَهْ بَارَهْ كَرْتِي جَانِيكِي وَهْ يَقْلِبُ پِير تَابِي اور لِيَانِي
 وَهْ يَقْرِضُنْ اُدَار دِي تَابِي وَهْ يَقْبِضُنْ تَنگ كَر تَابِي وَهْ يَقْبِضُونِ
 تَنگ كَر تَابِي وَهْ يَقْبِضُنْ تَنگ كَر تَابِي هِنِ اور جلد چيني هِنِ وَهْ يَقْرِضُ
 كَمَا نَاهِي وَهْ يَقْرِضُونِ كَمَا نَاهِي هِنِ وَهْ يَقْضُ بِيَان كَر تَابِي وَهْ يَقْضُونِ
 بِيَان كَر تَابِي هِنِ وَهْ يَقْرِضُو خُرْدِيكِي مَوْتِي هِنِ اور مَر كَرْتِي وَهْ يَقْرِضُو خُرْدِيكِي
 كَر دِي هِنِ وَهْ يَقْضِي حَكْم كَر تَابِي وَهْ اور كِهِي هِي اَخْرَسِي كَر جَانِي تَابِي
 يَقْضُونِ حَكْم كَر تَابِي هِنِ وَهْ يَقْضِي حَكْم كَر تَابِي وَهْ يَقْلِبُ كَم كَر تَابِي
 وَهْ يَقْتَدِرُ قَدْرَت رَكھ تَابِي اور تَنگ كَر تَابِي يَقْتَدِرُونِ قَدْرَت
 رَكھ تَابِي هِنِ وَهْ يَقْتَدِرُ اَمْدَارَهْ كَر تَابِي وَهْ يَقْتَدِرُونِ اَمْدَارَهْ كَر تَابِي هِنِ وَهْ
 يَقْسِمُ بَانْتَابِي وَهْ يَقْسِمَانِ سَوْنَد كِه تَابِي هِنِ وَهْ دُونِ -
 يَقْسُمُونِ حَصْر كَر تَابِي هِنِ وَهْ يَقْبِطُ نَا اَمِيد هُو تَابِي وَهْ يَقْبِطُونِ
 نَا اَمِيد هُو تَابِي هِنِ وَهْ يَقْدُمُ اَكِي جَل تَابِي وَهْ يَقْتَتُ فَرَا بَر دَارِي
 كَر تَابِي وَهْ يَقْتَدِرُ بِنْتَابِي وَهْ يَقْتَدِرُونِ بِنْتَابِي هِنِ وَهْ -
 يَقْتَدِرُونِ بِنْتَابِي جَانِيكِي وَهْ يَقْتَصِرُونِ كَم كَر تَابِي هِنِ وَهْ يَقْتَطِينِ خُت
 اَكِي اَمْدَارَهْ دَخْت بِلِدَار يَقِينِ بِيكِي اور مَوْت يَقْتَرُونِ پُر تَابِي هِنِ وَهْ

فصل الميار مع الكاف

يَكْذِبُونَ جَوث بولتے هِنِ وَهْ يَكْذِبُ جَبَل تَابِي وَهْ يَكْذِبُونَ
 جَبَل تَابِي هِنِ وَهْ يَكْفُرُ مَكْر هُو تَابِي وَهْ يَكْفُرُونِ تَنگ مَوْتِي هِنِ
 يَكْفُرُوا نَا شَكْرِي كَر جَانِيكِي وَهْ يَكْفُرُ دُور كَر تَابِي وَهْ يَكْفُرُ
 بَر هُو تَابِي وَهْ يَكْفُرُوا بَر هُو تَابِي هِنِ وَهْ يَكْسِبُ كَمَا تَابِي وَهْ

ی ک

نیکسبون کمانی بین وہ نیکون ہوتا ہے وہ اور کہی واو گر جاتا ہے
 نیکون رہتا ہے اور کہی نون ہی گر جاتا ہے نیک رہتا ہے
 نیکون ہون وہ دونوں نیکون ہونے کی کیفیت دلیل
 کرتا ہے وہ نیکلف تکلف دیتا ہے وہ نیکشم جمانا ہے وہ
 نیکشون چپاتی بین وہ نیکشمن چپاننا بین وہ نیکشک لکھتا
 ہے وہ نیکشبون لکھتے ہیں وہ نیککو بجاتا ہے وہ نیکور لپینا
 ہے اور خوار کرتا ہے وہ نیکاؤ نزدیک ہے وہ اور کہی الع
 گر جاتا ہے نیکد رہتا ہے یگاؤون نزدیک ہیں وہ نیکیدون
 فریب کرتے ہیں وہ نیکفصل ضامن ہوتا ہے وہ نیکفلون قبول
 کرتے ہیں وہ نیکجہ زبردستی کرتا ہے وہ نیکجہ ہون ناخوش
 جانتے ہیں وہ نیکجے کفایت کرتا ہے وہ نیکجلم بات کرتا ہے وہ نیکجرون
 خزانہ کاڑتے ہیں وہ نیکف بازرگنا ہے وہ نیکفون بازرگہی ہیں
 نیکشف کہوتا ہے وہ نیکشف کہولا جاتا ہے وہ

فصل الیاس مع اللام

ی ل

یلون نزدیک ہوتی ہیں وہ یلون لپینے ہیں اور پیرتی ہیں وہ
 یلبس ہے وہ یلبسون پہننے وہ یلبس ملاوے وہ یلبسون
 شبہ میں ڈالتے ہیں وہ یلبسوا ملاوین اور چپا دین وہ یلبس منعت
 کرتا ہے وہ یلب کھیتا ہے وہ یلبون کھیتے ہیں وہ یلب داخل
 ہوتا ہے وہ یلبون حق سے ہرتے ہیں وہ یلبتون دیر کرتے
 ہیں وہ یلبوا ملنے ہیں وہ یلب اعرابے گر گیا یلبق ملاقات کرتا ہے
 وہ یلب آخر سے گر گئے یلبتون پہنچتے ہیں وہ یلبقوا ملاقات

کرنیکے وہ یَلْتَقِ ذَالْتَا ہے وہ جی آخر سے گر گئے یَلْقَوْنَ اِذْ اَلْتَمَسْتُمْ
 مَلِئَتْ ذَالَا جَانِیْکَا وہ مَلِئَتْ مَلِئَتْ مَلِئَتْ مَلِئَتْ مَلِئَتْ مَلِئَتْ مَلِئَتْ
 کئے جائینگے اور ملینگے وہ یَلْتَقِیَانِ ملتے ہیں وہ دو نون یَلْتَقِیْتُمْ
 متوجہ ہوتا ہے وہ یَلْقِطُ اوٹتا لیتا ہے اور جن لیتا ہے وہ یَلِیْہُ
 مشغول کرتا ہے وہ اصل میں یَلِیْہُ تھا جی آخر سے گر گئی یَلِیْہُ
 زبان نکالتا ہے اور پیسا ہوتا ہے وہ یَلِیْثُ کم کرتا ہے وہ
 یَلِیْزُ و اوٹلیوں سے بتاتا ہے اور طعنہ کرتا ہے وہ یَلِیْزُونَ
 عیب کرتے ہیں اور آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں وہ یَلِیْدُ مجتہد ہے
 یَلِیْدُ وَا جنتے ہیں وہ نون اعرابی گر گیا یَلْقِطُ بولتا ہے وہ

۴

فصل الیاء مع الیم

یَمِیْنِ تم اور دہنے طرف اور قوت اور صحاب الیمین نام ہے
 جنیتوں کا کہ روز میثاق کے دہنے طرف سے آدم کے نکلے ہتے
 اور دنیا میں بھی رہتی شاعر ہتے اور موقف میں بھی قیامت کے
 دین دہنے طرف عرش کے کپڑے ہونگے اور نامہ اعمال بھی دہنی نا
 میں دیئے جائینگے اور جنت میں کہ دہنے طرف عرش کے ہے روانہ ہونگے
 اور صحاب الیمینہ بھی انہیں کو کہتے ہیں اور صحاب الشمال اور صحاب
 الیمینہ برخلاف اونکے ہیں یَمِیْنُ احسان رکھتا ہے وہ یَمِیْنُونَ
 احسان رکھتے ہیں وہ یَمِیْنُ آرزو میں ذالتا ہے وہ یَمِیْنُ اُکھایا
 جاتا ہے اور گرایا جاتا ہے وہ یَمِیْنُ مالک ہوتا ہے وہ -
 یَمِیْنُونَ مالک ہوتے ہیں وہ یَمِیْنُ دُونَ تیار کرتے
 ہیں وہ یَمِیْنُ چوتتا ہے اور پہنچتا ہے وہ ۛ

اور کہی فک اوغام سے میسمن ہی پڑتے ہیں فی قولہ تعالیٰ ان تمسک
 اللہ بصر الخ تمسک کن قدرت دیتا ہے وہ میسک نگاہ رکھتا ہے
 میسکون چکل مارتی ہیں اور مضبوط پکڑتے ہیں وہ میسک کہنیا ہے
 اور دماز کرتا ہے وہ اور فک اوغام سے میسک ہی آیا ہے میسکون
 کہنیتے ہیں وہ میسک مد کرتا ہے وہ اور فک اوغام سے میسک ہی آیا ہے
 میسک کر دوا کرتا ہے وہ میسکون فریب کرتی ہیں وہ میسکون مرتا
 وہ اور کہی دوا کرتا ہے میسک پڑتے ہیں میسکون مرتے
 ہیں اور مزینگی وہ میسک مارتا ہے وہ میسکون مٹاتا ہے وہ اور
 کہی دوا کرتا ہے میسک رہتا ہے میسکون ناچیز کرتا ہے اور گھٹاتا ہے
 وہ میسکون گذرتی ہیں وہ میسکون ٹہرتا ہے وہ میسکون شک
 کرتے ہیں وہ میسکون چکڑا کرتے ہیں وہ میسکون باد سے لکھاتا ہے
 وہ اور فک اوغام سے میسک ہی آیا ہے میسکون منع کرتے
 ہیں وہ میسک فائدہ مند کرتا ہے وہ میسکون برخوردار کئے جائیگی
 وہ میسکون خواہش کرینگے وہ میسکون چلتا ہے وہ میسکون
 چلتے ہیں وہ میسک دما اور دریا میں ڈالنا اور قصبہ کرنا میسکون چلتا ہے
 اور حرکت کرتا ہے وہ میسکون جد کرتا ہے وہ میسکون خالص کرتا ہے اور ازنا

فصل الیاء مع النون

سی

میسکون آواز کرتا ہے اور چلتا ہے وہ میسکون خراج کرتا ہے وہ
 میسکون حسیج کرتے ہیں وہ میسکون کہتا ہے وہ میسکون
 بولتے ہیں وہ میسکون چلتا ہے وہ میسکون منع کرتا ہے وہ میسکون
 منع کرتے ہیں وہ میسکون بازر رہتا ہے وہ میسکون بازر رہتے ہیں

تراشتے ہیں وہ **یَنْسِفُ** کہہ لیا وہ **یُنْفِثُ** پیدا کرتا ہے وہ
مُنْفِثٌ پیدا کیا جاتا ہے اور پالا جاتا ہے وہ **مُنْفِثٌ** صواب ہاگین وہ
یُنْفِثُ پہولتا ہے وہ **یُنْفِثُ** بہلاتا ہے وہ **یُنْفِثُ** پراگندہ
 کرتا ہے وہ **یُنْفِثُ** پراگندہ کرتے ہیں وہ **یُنْفِثُ** رجوع
 کرتا ہے وہ **یُنْفِثُ** مٹاتا ہے وہ **یُنْفِثُ** مٹاتا ہے وہ **یُنْفِثُ**
 انکار کرتے ہیں وہ **یُنْفِثُ** ہونکا جاتا ہے وہ **یُنْفِثُ** کم کرتا ہے
یُنْفِثُ بجا لیوے وہ **یُنْفِثُ** نجات دیتا ہے وہ **یُنْفِثُ** آگاہ
 کرتا ہے وہ **یُنْفِثُ** خبردار کیا جائیگا وہ **یُنْفِثُ** ہینکا جائیگا
یُنْفِثُ نکالے جائیگے وہ **یُنْفِثُ** فائدہ کرتا ہے وہ -
یُنْفِثُ فائدہ دیتے ہیں وہ **یُنْفِثُ** مع الیاء مع الواو
یُنْفِثُ نام ہے ایک پیغمبر کا بیٹے یعقوب علیہ السلام کے
یُنْفِثُ نام ہے پیغمبر کا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام فقہ انجا
 قرآن میں مفصل مذکور ہے **یُنْفِثُ** ایلا کرتے ہیں یعنی سوگند
 کہاتے ہیں کہ اپنے عورت کے پاس سجاوین گے معنے ایلا کے اسطرح
 کی سوگند کہانے کے ہیں حکم اسکا شرع میں یہ ہے کہ اگر مردنی
 چار مہینے کے عرصے میں رجوع کیا اور عورت کے نزدیک گیا تو اسکا کفارہ
 دینا آیرگا اور خطا حق تقالے معاف کرتا ہے اور عورت اسکی حلال
 ہوتے ہے اور اگر باوجود قدرت رجوع کے چار مہینے کے عرصے میں
 رجوع نکلیا اور عورت سے صحبت ہوا تو طلاق بائن ہو جاتا ہے
 اور عورت نکاح سے باہر ہو جاتے ہے یہ مذہب مختار حنفیہ کا ہے
 اور شافعی اور مالکے اور حنبلی کے نزدیک بجز چار مہینے گذرنی کے

طلاق نہیں ہوتا ہے بلکہ بعد کے یہی اگر کفارہ دیکر رجوع کرے تو ہو سکتا ہے
 اور اگر رجوع نہ کرے تو عورت قاضی کے پاس جا کر نسیا دکرے
 کہ شوہر رجوع کرے یا طلاق دیوے تفصیل اسکی فقہ کی کتابوں
 میں مفصل بیان ہے **يُؤْعَوْنَ** نگاہ رکھتے ہیں اور جمع کرتے
 ہیں وہ **يُؤْزَعُونَ** قید میں نگاہ رکھے جاتے ہیں وہ **يُوضَعُ** وصیت
 کرتا ہے وہ **يُؤْصِي** نصیحت اور وصیت دیا جاتا ہے **يُؤْصِيَنَّ**
 وصیت کرتین ہیں وہ **يُؤْمِنُ** ایمان لاتا ہے وہ **يُؤْمِنُونَ** ایمان
 لاتے ہیں وہ **يُؤْمِسُ** باور کرتین ہیں وہ **يُؤْقِنُونَ** یقین کرتی
 ہیں وہ **يُؤْصَلُ** ملا یا جاتا ہے وہ **يُؤْخَذُ** لیا جاتا ہے وہ
يُؤْخِذُ گرفت کرتا ہے وہ **يُؤْتِي** دیتا ہے وہ اور کبھی
يُؤْتِي بجز فایا بھی آیا ہے **يُؤْتُونَ** دیتے ہیں وہ **يُؤْتِي**
 دیا جاتا ہے وہ **يُؤْتُونَ** دیے جاتے ہیں وہ **يُؤْتِي**
 پورا دیتا ہے وہ **يُؤْتِي** تمام دیا جاتا ہے اور دیا جا سکتا
يُؤْتُونَ پورا دیے جائیں گے وہ **يُؤْقِرُ** ادا کرتا ہے اور حق
 پہنچاتا ہے وہ **يُؤْرَسُ** گئے **يُؤْرَسُ** دوست رکھتا ہے وہ
يُؤْرَسُونَ دوست رکھتی ہیں وہ **يُؤْأَدُونَ** باہم دوستی رکھتے
 ہیں وہ **يُؤْفِقُ** موافقت کرتا ہے اور کریگا وہ **يُؤْفِقُ** پیغام
 پہنچتا ہے وہ **يُؤْحُونَ** پیغام بھیجتے ہیں اور پہنچاتے ہیں وہ **يُؤْحِرُ**
يُؤْحِرُ وحی کیا جاتا ہے وہ **يُؤْحِرُ** گئی **يُؤْفُونَ** پورا کرتے ہیں وہ
يُؤْأَرِي چپاتا ہے وہ **يُؤْلِي** پیشہ پیرتا ہے وہ **يُؤْلِي** گئی **يُؤْلُونَ**
 پیشہ پیرتی ہیں وہ **يُؤْغَطُونَ** یا جاتا ہے وہ **يُؤْغَطُونَ** نصیحت دینی جاتی ہے

یُوْتَفَكُّ پہرا جاتا ہے وہ یُوْتَقْوَنُ پہرے جائیں گے وہ یُوْأَطْعَمُوْا
 برابر اور پورا کرینگے وہ نون اعرابی گر گیا یُوْنَجُّ داخل کرتا ہے وہ
 یُوْتَحْرَمُ دیر کرتا ہے وہ یُوْقِدُوْنَ دہواکتے ہیں اور آگ روشن کرتی
 ہیں وہ یُوْقَدُ سلگایا جاتا ہے وہ یُوْجِبُ منہ کرتا ہے وہ یُوْلَدُ
 جنا جاتا ہے وہ یُوْسُوْسُ خطرہ ڈالتا ہے اور خدشہ کرتا ہے وہ
 یُوُقُّ بچا گیا وہ یُوْلَفُّ ملاتا ہے وہ یُوْمَرُوْنَ حکم کئے
 جائینگے وہ یُوْذَنُ پروانگی دیا جائیگا وہ یُوْزِمِي ستاتا ہے وہ
 یُوْذُوْنَ ستاتے ہیں وہ یُوْذِيْنَ ستائی جاتی ہیں وہ یُوْزِرُ
 نقل کیا جاتا ہے وہ یُوْزِرُوْنَ اختیار کرتے ہیں وہ یُوْعَدُوْنَ وعدہ
 دیئے جاتے ہیں وہ یُوْفِضُوْنَ دوڑتے ہیں وہ یُوْبِقُ ہلاک کرتا ہے
 یُوْبِقُ مضبوط کرتا ہے وہ اور محکم باندھتا ہے وہ یُوْوَقُّ ڈالتا ہے وہ
 یُوْزِرُ وارث کرتا ہے وہ یُوْزِرُ میراث لیا جاتی ہی یَوْمُ دن اور یَوْمِيْدُ آج کا دن
 یَوْمِيْنِ دو دن ۞ فصل البیاء مع المصار ۞
 یہند سے راہ بتاتا ہے وہ اور یہند ہی آیا ہے یہندُوْنَ راہ بتاتی
 ہیں وہ بھڈ سے راہ بتلایا جاتا ہے وہ بھڈ ہی راہ پاتا ہے وہ
 اصل میں یہندی باب افتخار سے تہانکو وال سے بدل کر کے
 ادغام کیا اور ہے کو سبب اجتماع ساکنین کے کسرہ دیا بھڈ ہی
 ہوا بھڈتُوْنَ راہ پاتی ہیں وہ یہنیطُ کرتا ہے اور اُترتا ہے وہ
 یہنکُ تباہ ہوتا ہے وہ یہنکُ نیت کرتا ہے وہ یہنکُوْنَ
 خراب کرتی ہیں وہ یہنکُ ہلاک کیا جائیگا وہ بھڈے تیار کرتا ہے وہ
 یہنڈ ذلیل کرتا ہے وہ ہی درمیان سے گر گئی یہنیجُ خشک ہوتا ہے

اور تیار ہوتا ہے وہ بھی تم شکست دیا جائیگا وہ پھر خون دوزی
جائیں گے وہ پھر مولیٰ سرگشتہ ہوتے ہیں اور بے راہ چلتے ہیں وہ
پھر خون سولتے ہیں وہ بھی ساجر وطن چوڑے ہے وہ یہاں چروا
ہجرت کریں وہ یہاں بختا ہی وہ یہودی جہود جب یہودی ہوں

فصل الیاء مع الیاء

سی

یٰٰی نایب ہوتا ہے اور اس توڑتا ہے وہ اسے اسد تو ہجو
اپنے فضل کا امید وار رکھ اور اپنے رحمت سے نا امید مت کر
اِنَّ لَا یَنْبِئُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمَ الْکٰفِرُوْنَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
اِنْ نَسِیْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا اِضْرًا کَاَحْمَلْتَا
عَلِی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه
وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
عَلِی الْقَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی
عَلِی خَیْرِ خَلْقِ مُحَمَّدٍ وَّآلِہِ وَاَصْحَابِہ
طَرَّ الْجَمْعِیْنَ ۝
مَتَّ

خاتمة الطبع

یہ کتاب مستطاب موسوم پتیسیر القرآن فی تخریج لغات القرآن بعلم
اردو خوان محض ترجمہ پڑھنے والوں کے لئے عجیب اسم ہائے کتاب
اسکے مطالعہ کرنے سے قرآن مجید کی لغات کی معرفت سہل و آسان
ہو جاتی ہے حقیقت معانی صورت دکھانی ہے اسے اسے جو سی عالیجناب

مستفنی عن الالقاب در دمنده اہل ایمان حضرت مولانا منشی محمد جمال الدین صاحب بہادر دام اجلہم واقبالہم کم راہی ہدایت پیراے نے اس طرف میدان فرمایا کہ یہ عجوبہ نادرہ منطبع ہو جائے تاہر ایک شائق شاہد معنی قرآن جمال عروس ہنس لغت سے لطف تازہ اوٹھائے یہ اگرچہ یہ کتاب پہلے اس سے اور مطابع میں دو مرتبہ قالب طبع میں آچکے تھے مگر چونکہ سیکڑ غلط منطبع ہوئے تھے اور اردو وہی اس کتاب کی خلاف روز مرہ اہل زبان تھے اور محاورہ کے موافق نہ تھے۔ اور اکثر ضما ر و ن کا بھی بیان کرنا مؤلف سے اس میں رہ گیا تھا اور یہ کتاب اب کیا ب بھی ہتی اسلئے بعد تنقیح صحیح و درستی محاورات و اظہار ضما ر و ن با یامے جناب محترم الیہ کے مطبع فاروقی دہلی میں باہت تمام بندہ محمد معظم کے مطبوع طابع انام

قطعہ تاریخ طبع تراویح جناب فضیلا مولانا محمد غلام اکبر خالصنا مسلم

<p>چھپکا جیدم تو سال طبع یون میں نے کہا لنسخہ حل معانی قرآن اجا چیا</p>	<p>مطبع فاروقی دہلی میں تیسیر القرآن بے سرا عرض دل یہ مصرعہ نوون گھو</p>
---	--

الصنا

<p>ہوا مطبوع تو طرح پے سال کہا در شہوار معانی قرآن کیا ہے چیا</p>	<p>جبکہ یہ نسخہ مطبع فاروقی میں پڑہ دو یہ طبع کی تاریخ میں مصرع مسلم</p>
---	--

۱۰

	<p>ہر کہ خواند و طبع دارم زانکہ من بندہ گنہ گارم</p>	
--	--	--

توفیق پورہ

جامعہ اسلامیہ

۱۔ از اربعین تا یوم النحر

۲۔ از یوم النحر تا یوم النہد

۳۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۴۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۵۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۶۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۷۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۸۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۹۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۱۰۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۱۱۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۱۲۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۱۳۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۱۴۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۱۵۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۱۶۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۱۷۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۱۸۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۱۹۔ از یوم النہد تا یوم النہد

۲۰۔ از یوم النہد تا یوم النہد